



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HR2170, HR2168, HR2167, HR2161, HR2160









PHILIPS






HR2168, HR2167

HR2168, HR2167
HR2161, HR2160

HR2168

HR2168, HR2167
HR2161

ENGLISH	6
INDONESIA	16
한국어	26
BAHASA MELAYU	36
ภาษาไทย	47
TIẾNG VIỆT	55
繁體中文	65
简体中文	74
العربية	92
فارسی	101

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

The appliance is equipped with a built-in safety system that prevents the appliance from functioning if the accessories have been assembled incorrectly or have not been assembled at all.

General description (Fig. 1)

- 1** Motor unit with control knob
- 2** Pulse setting
- 3** Speed settings
- 4** Ice button
- 5** Plastic blender blade unit
- 6** Plastic blender jar (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)
- 7** Level indication
- 8** Lid of plastic blender jar
- 9** Opening in lid
- 10** Measuring cup
- 11** Filter (HR2168/HR2167 only)
- 12** Glass blender blade unit
- 13** Glass blender jar (HR2170 only)
- 14** Level indication
- 15** Lid of glass blender jar
- 16** Opening in lid
- 17** Measuring cup
- 18** Coupling unit
- 19** Chopper bowl (HR2168 only)
- 20** Chopper blade unit
- 21** Chopper lid
- 22** Mill blade unit
- 23** Mill beaker (HR2168/HR2167/HR2161 only)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

General

Danger

- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor unit.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
- Never use the blender jar, mill beaker (specific types only) or chopper bowl (specific types only) to switch the appliance on and off.
- Never let the appliance run unattended.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are very sharp.

Caution

- Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make adjustments to any of the parts.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not exceed the maximum indication on the blender jar, the mill (specific types only) beaker and the chopper bowl (specific types only).
- Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in the relevant table.
- The appliance can only be switched on if the blender jar, the mill beaker (specific types only) or the chopper bowl (specific types only) is assembled on the motor unit correctly.

Blender

Warning

- Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is running.
- Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before you assemble the blender jar onto the motor unit.
- Do not touch the cutting edges of the blender blade unit when you handle or clean it. They are very sharp and you could easily cut your fingers on them.
- If the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blades.

Caution

- Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80°C.
- To prevent spillage, do not put more than 1.5 litres of liquid in the blender jar; especially when you process at a high speed. Do not put more than 1 litre in the blender jar when you process hot liquids or ingredients that tend to foam.
- If food sticks to the wall of the blender jar, switch off the appliance and unplug it. Then use a spatula to remove the food from the wall.
- Always make sure the lid is properly closed/assembled on the jar and the measuring cup is inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
- HR2170 only: The jar is made of glass and therefore breakable. Do not drop the jar on a hard floor. Also avoid extreme thermal shocks. If the jar is very cold, rinse it well with lukewarm water before you pour hot liquid into it. If the glass jar cracks, stop using it.

Mill (HR2168/HR2167/HR2161 only)

Warning

- Make sure the blade unit is securely fastened to the mill beaker before you assemble the mill beaker onto the motor unit.
- Do not touch the cutting edges of the mill blade unit when you handle or clean it. They are very sharp and you could easily cut your fingers on them.
- Never use the mill to grind very hard ingredients such as nutmeg and ice cubes.

Caution

- Never use the mill for more than 30 seconds without interruption. Let the mill cool down to room temperature between processing cycles.
- Always process cloves, star anise and aniseed together with other ingredients. If processed separately, these ingredients may attack the plastic materials of the appliance.
- The mill beaker may become discoloured when you use the mill to process ingredients such as cloves, anise and cinnamon.
- The mill is not suitable for chopping raw meat. Use the blender or chopper instead.

- Do not use the mill to process liquids such as fruit juice.

Chopper (HR2168 only)

Warning

- Make sure the coupling unit is securely fastened to the chopper bowl before you assemble the chopper onto the motor unit.
- Do not touch the cutting edges of the chopper blade unit when you handle or clean it. They are very sharp and you could easily cut your fingers on them.
- Never reach into the chopper bowl with your fingers or an object while the appliance is running.
- If the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blades.

Caution

- Always make sure the lid is properly assembled on the chopper bowl before you switch on the appliance.
- If food sticks to the wall of the chopper bowl, switch off the appliance and unplug it. Then use a spatula to remove the food from the wall.

Filter (HR2168/HR2167 only)

Caution

- Never use the filter to process ingredients hotter than 80°C.
- Never overload the filter. Do not fill the filter beyond its metal part.
- Always make sure the lid of the blender jar is closed/assembled properly and the measuring cup is inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
- Cut fruit into smaller pieces before you put it in the filter.
- Soak dried ingredients, such as soy beans, before you put them in the filter.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Built-in safety lock

This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar and lid, the mill beaker or the chopper bowl and lid (specific types only) are assembled on the motor unit properly. If the blender jar and lid, the mill beaker or the chopper bowl and lid are correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.

Motor circuit protector

The appliance is equipped with a motor circuit protector that switches off the motor if the motor jams (which might occur during heavy processing jobs or if the appliance is not used according to the instructions in the user manual). If this happens, first switch off and unplug the appliance and let it cool down to room temperature. Then check if the quantity of ingredients you are processing does not exceed the quantity mentioned in the user manual or if something is blocking the blade unit.

Before first use

Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time (see chapter 'Cleaning').

Using the appliance

Blender

► The blender is intended for:

- Blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks, shakes.
- Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
- Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.

Preparing the blender for use

- 1** Screw the blender blade unit clockwise onto the blender jar (Fig. 2).
- 2** Mount the blender jar with the blade unit attached to it onto the motor unit and turn it clockwise until it locks into position (Fig. 3).
- 3** Put the ingredients in the blender jar.
Let hot ingredients cool down before you put them in the blender jar (max. temperature 80°C/175°F).
- 4** HR2170 only: fasten the lid on the jar by pressing it down (1) and turning it clockwise (2). (Fig. 4)

Note: Make sure that the sieve in the lid is positioned in front of the spout of the jar to be able to pour out liquids.

- 5** HR2168/HR2167/HR2161/HR2160 only: close the lid.

- 6** Insert the measuring cup into the lid (Fig. 5).

Note: To disassemble the blender, follow the instructions above in reverse order and direction.

Using the blender

Never reach into the jar with your fingers or an object (e.g. a spatula), while the blender is running.

Do not exceed the maximum level indicated on the blender jar.

- 1** Put the mains plug in the wall socket.

- 2** Switch on the appliance. (Fig. 6)

Note: See the blender table at the end of this user manual for the recommended quantities, speed settings and processing times.

- To process ingredients at a particular speed, turn the control knob to the required speed setting.

Do not let the appliance run for more than 2 minutes at a time. Let the appliance cool down to room temperature before you continue processing.

- To process ingredients very briefly, turn the control knob to the pulse setting (P) several times.

Never use the pulse setting longer than a few seconds at a time.

- To crush ice, press the ICE button.

- 3** When you have finished processing, set the control knob to 0 and unplug the appliance.

Always set the control knob to 0 before you open the lid.

Tips

- To prevent spillage, do not put more than 1.5 litres of liquid in the blender jar; especially when you process at a high speed. Do not put more than 1 litre in the blender jar when you process hot liquids or ingredients that tend to foam.
- You can use the opening in the lid to add ingredients while the appliance is running (Fig. 7).

- Do not process dry ingredients for more than 1 minute.
- Cut solid ingredients into smaller pieces before you put them in the blender jar. Do not process a large quantity of solid ingredients at the same time. Process these ingredients in a series of small batches instead.
- If you are not satisfied with the results when you blend solid ingredients, use the pulse setting a few times to let the blender run briefly. If you want to use a spatula, switch off the appliance, open the lid and then stir the ingredients. You can also remove some of the contents of the jar and process smaller amounts.
- To crush ice cubes, put max. 5 cubes in the jar at a time and press the ICE button a few times.

HR2170 only: The jar is made of glass and therefore breakable. Do not drop the jar on a hard floor. Also avoid extreme thermal shocks. If the jar is very cold, rinse it well with lukewarm water before you pour hot liquid into it. If the glass jar cracks, stop using it.

Filter (HR2168/HR2167 only)

You can use the filter to obtain extra finely blended sauces, fresh fruit juices or cocktails. All pips and skins are caught in the filter.

HR2170/HR2160: You can order the filter (type number HR2963) from your Philips dealer.

Never fill the filter beyond its metal part.

Do not use the filter to process hot ingredients.

Preparing the filter for use

- 1** Assemble the blender jar onto the motor unit (see section ‘Preparing the blender for use’ in this chapter).
- 2** Put the filter in the blender jar (Fig. 8).
Make sure the filter is placed properly on the bottom of the jar.
The grooves of the filter and the ribs inside the blender jar help you put the filter in the right position.
- 3** Close the lid.

Using the filter

- 1** Put the ingredients in the filter through the opening in the lid.
Cut fruits into smaller pieces and soak dried pulses, such as soy beans, before you process them in the filter.
- 2** Add water or another liquid.
- 3** Put the measuring cup in the lid, set the control knob to the highest speed and let the appliance run for max. 40 seconds.
- 4** Set the control knob to 0 and remove the blender jar from the motor unit.
- 5** Pour out the drink through the spout of the blender jar (Fig. 9).
Make sure the lid is closed and the measuring cup is in the lid. This prevents pulp and skins from ending up in your drink.
- 6** For optimal results, put the jar with the remaining ingredients back onto the appliance, without opening/removing the lid. Then let the appliance run for a few more seconds.
- 7** Pour out the rest of the drink.
- 8** When you have finished processing, set the control knob to 0 and unplug the appliance.

Tips

- When you process a large quantity, we advise you not to put all the ingredients in the filter at the same time. Start to process a small quantity and let the appliance run for a few seconds. Then switch off the appliance and add another small quantity. Repeat this procedure until you have processed all the ingredients. Always keep the lid on the blender jar during processing.
- To get the best result when you make fruit juices and cocktails, add approx. 300ml water to 150g fruit. You can also use other liquids, e.g. to make cocktails.
- To make tomato juice, cut the tomatoes in four and drop the pieces through the opening in the lid onto the rotating blades.

Mill (HR2168/HR2167/HR2161 only)

You can use the mill to grind and chop ingredients such as peppercorns, sesame seeds, rice, wheat, coconut flesh, nuts (shelled), coffee beans, dried soy beans, dried peas, cheese, breadcrumbs, etc.

Always process cloves, star anise and aniseed together with other ingredients. If processed separately, these ingredients may attack the plastic materials of the appliance.

The mill is not suitable for chopping very hard ingredients like nutmeg and ice cubes.

Do not exceed the maximum level indicated on the mill beaker.

Preparing the mill for use

- 1 Put the ingredients in the mill beaker (Fig. 10).

Note: See the mill table at the end of this user manual for the recommended quantities and processing times.

- 2 Screw the mill blade unit clockwise onto the mill beaker (Fig. 11).

- 3 Turn the assembled mill upside down and screw it clockwise onto the motor unit (Fig. 12).

Using the mill

- 1 Switch on the appliance.

We advise you to use the pulse setting or speed setting 5.

Never let the mill run for more than 30 seconds without interruption.

- 2 When you have finished processing, set the control knob to 0 and unplug the appliance.

- 3 To remove the mill from the motor unit, turn the mill anticlockwise.

Chopper (HR2168 only)

You can use the chopper to chop ingredients such as onions, meat, herbs, vegetables, fruit, chocolate, firm cheese, baby food and nuts.

HR2170/HR2161/HR2160: You can order the chopper (type number HR2965) from your Philips dealer.

Do not use the chopper to mix liquids. Use the blender for this purpose.

- 1 Insert the coupling unit of the chopper into the bottom of the chopper bowl (1). Turn the coupling unit anticlockwise to fix it (2) (Fig. 13).

- 2 Place the chopper bowl (1) on the motor unit and turn it clockwise to fix it (2). (Fig. 14)

- 3 Place the chopper blade unit in the chopper bowl (Fig. 15).

- 4 Put the ingredients in the chopper bowl (Fig. 16).

Note: See the chopper table at the end of this user manual for the recommended quantities and processing times.

Do not exceed the maximum quantities indicated in the table.

Tip: Precut large pieces of food into pieces of 1-2cm.

5 Put the lid on the chopper bowl (1) and turn it clockwise to fix it (2) (Fig. 17).

Note: Make sure the lid is properly fixed before you switch on the appliance.

6 Switch on the appliance.

Note: If the appliance shakes because the food is not evenly distributed, put your hand on the lid.

Note: The chopper does its work in a few seconds. Never let it run longer than a few seconds.

7 When you have finished processing, set the control knob to 0 and unplug the appliance.

8 Turn the chopper bowl anticlockwise (1) and remove it from the motor unit (2). (Fig. 18)

9 Turn the coupling unit clockwise (1) and remove it from the bottom of the chopper bowl (2) (Fig. 19).

10 Remove the lid and the blade unit from the chopper bowl.

Be careful when you handle the blade unit. The cutting edges of the blade unit are sharp.

11 Empty the chopper bowl.

Always remove blade unit from the chopper bowl and the chopper from the motor unit before you empty the chopper bowl.

Cleaning (Fig. 20)

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

1 Switch off and unplug the appliance.

2 Disassemble all removable parts before you clean them.

3 Clean the different parts of the appliance as indicated in the cleaning table.

Tips:

- Cleaning the appliance and its parts is easiest immediately after use.
- If necessary, clean the mesh of the filter with a very soft brush.

Quick-cleaning the blender jar

1 Fill the blender halfway with warm water and add a few drops of washing-up liquid.

2 Turn the control knob to the pulse setting a few times.

3 Detach the blender jar, empty it and rinse it under the tap.

Storage

1 To store the mains cord, push it into the cord storage compartment in the base (Fig. 21).

2 Store the appliance in a safe and dry place.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 22).

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Recipes

For more recipes, visit our website www.philips.com/kitchen.

Baby food

Ingredients

- 250g cooked chicken meat
- 250g cooked potatoes
- 250g cooked green beans
- 450ml milk

- 1** Assemble the blender jar onto the motor unit (see section ‘Using the appliance’).
- 2** Precut the ingredients into pieces of 2x2x2cm.
- 3** Put the ingredients in the blender jar.
- 4** Blend the ingredients for 25 seconds (or longer for a finer result).

Note: If you want to prepare a larger quantity, let the appliance cool down to room temperature before you process the next batch of ingredients.

Soy milk

Ingredients

- 180g soy beans (soaked)
- 500ml warm water

- 1** Soak the soy beans in fresh water for at least 4 hours until they are soft.
- 2** Process the soaked soy beans with 500ml warm water in the blender for approx 60 seconds until you have obtained a smooth liquid.

Note: If you want to prepare a larger quantity, let the appliance cool down to room temperature before you process the next batch of ingredients.

Five Spice powder

Ingredients

- 2g aniseed
- 2g star anise
- 2g Chinese cassia
- 2g cloves
- 2g Chinese liquorice

- 1** Put all ingredients in the mill beaker.
- 2** Grind the ingredients for 30 seconds.

Note: If you want to prepare a larger quantity, let the appliance cool down to room temperature before you process the next batch of ingredients.

Thai massaman

Ingredients

- 20g shallots
- 15g garlic
- 7g galangal
- 9g lemongrass
- 2 cloves
- 1 tbsp coriander seeds
- 1 tbsp cumin seeds
- 3 dried chillies
- 5 peppercorns
- 1 tbsp shrimp paste
- 1 tbsp salt

1 Cut the galangal into slices of approx. 1cm.

2 Put all ingredients in the mill beaker.

3 Grind the ingredients for 30 seconds.

Note: If you want to prepare a larger quantity, let the appliance cool down to room temperature before you process the next batch of ingredients.

Chilli paste

Ingredients

- 20g fresh red chillies
- 30g shallots
- 2 cloves garlic

1 Cut the chillies and shallots into large pieces that fit into the chopper bowl.

2 Put the chillies, shallots and garlic in the chopper bowl.

3 Chop the ingredients for 30 seconds.

Note: If you want to prepare a larger quantity, let the appliance cool down to room temperature before you process the next batch of ingredients.

Frequently asked questions

If the appliance does not work or does not work properly, first check the list below or visit the Philips website at www.philips.com/welcome. If the problem is not mentioned in this list or on the internet, the appliance probably has a defect. In that case we advise you to take the appliance to your dealer or to an authorised Philips service centre.

Question	Answer
Why doesn't the appliance work?	This appliance is equipped with a safety system. The appliance does not work if the blender jar with lid, the chopper bowl with lid (specific types only) or the mill beaker (specific types only) are not assembled correctly on the motor unit or are not assembled at all. Check if you have assembled the blender jar with lid, the chopper bowl with lid or the mill beaker correctly (see the various sections in this user manual). Set the control knob to 0 first.
Can I clean all removable parts in the dishwasher?	Yes, except the motor unit and the coupling unit of the chopper (specific types only).
What does 'pulse' mean?	When you turn the control knob to the pulse setting, the appliance runs at its highest speed as long as you keep the knob in this position. Use the pulse setting if you want to have more control over the processing jobs.
Can I pour boiling hot liquids into the blender jar?	No, let hot liquids cool down to 80°C/175°F to avoid damage to the jar.
Why does the motor produce an unpleasant smell during processing?	It is common for a new appliance to give off an unpleasant smell or emit some smoke the first few times it is used. This phenomenon stops after you have used the appliance a number of times. The appliance may also give off an unpleasant smell or emit some smoke if it has been used too long. In this case, set the control knob to 0 and let the appliance cool down for 60 minutes.
The appliance stopped running because the blade unit is blocked. What should I do?	Set the control knob to 0 and use a spatula to dislodge the ingredients that block the blade unit. We also advise you to process a smaller quantity.
Why does the fruit juice or soy milk contain a lot of pulp or skins?	To prevent pulp and skins from ending up in your drink, make sure that the filter (specific types only) is placed properly in the jar; the lid is closed and the measuring cup is inserted in the lid.
The blender jar leaks. What should I do?	Set the control knob to 0 and pour out the ingredients. Make sure that the sealing ring is properly in place on the blade unit. Also make sure that the blade unit is assembled correctly.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome. Alat ini dilengkapi dengan sistem pengaman bawaan yang mencegah alat berfungsi jika aksesoris tidak dipasang dengan benar atau sama sekali tidak dipasang.

Gambaran umum (Gbr. 1)

- 1** Unit motor unit dengan kenop kontrol
- 2** Setelan pulsa
- 3** Setelan kecepatan
- 4** Tombol es
- 5** Unit pisau blender plastik
- 6** Tabung blender plastik (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)
- 7** Indikator ukuran
- 8** Tutup tabung blender plastik
- 9** Lubang pada tutup
- 10** Gelas ukur
- 11** Filter (HR2168/HR2167 saja)
- 12** Unit pisau blender kaca
- 13** Tabung blender kaca (HR2170 saja)
- 14** Indikator ukuran
- 15** Tutup tabung blender kaca
- 16** Lubang pada tutup
- 17** Gelas ukur
- 18** Unit sambungan
- 19** Mangkuk perajang (HR2168 saja)
- 20** Unit pisau perajang
- 21** Tutup perajang
- 22** Unit pisau gilingan
- 23** Gelas gilingan (HR2168/HR2167/HR2161 saja)

Penting

Bacalah petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi nanti.

Umum

Bahaya

- Jangan sekali-kali merendam unit motor dalam air atau cairan lain, membilasnya di bawah keran. Gunakan hanya kain lembap untuk membersihkan unit motor.

Peringatan

- Periksalah apakah tegangan pada alat sesuai dengan tegangan listrik di rumah Anda, sebelum menghubungkan alat.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan menggunakan alat jika steker, kabel listrik atau komponen lain ada yang rusak.
- Jangan sekali-kali menggunakan tabung blender, gelas gilingan (hanya tipe tertentu) atau mangkuk perajang (hanya tipe tertentu) untuk menghidupkan atau mematikan alat.
- Jangan sekali-kali meninggalkan alat yang sedang bekerja tanpa ditunggu.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali

- jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jangan menyentuh pisauanya, khususnya bila alat sudah dihubungkan ke stopkontak. Pisau-pisau ini sangat tajam.

Perhatian

- Cabut selalu steker alat dari listrik sebelum Anda merakit, membongkar, membersihkan atau mengubah komponennya.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesorai atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesorai atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan melampaui tanda maksimum pada tabung blender, gelas (hanya tipe tertentu) gilingan dan mangkuk perajang (hanya tipe tertentu).
- Jangan melampaui takaran maksimum dan waktu pengolahan yang ditunjukkan dalam tabel bersangkutan.
- Alat hanya dapat dihidupkan jika tabung blender, gelas gilingan (hanya tipe tertentu) atau mangkuk perajang (hanya tipe tertentu) telah dipasang pada unit motor dengan benar.

Blender

Peringatan

- Jangan sekali-kali memasukkan jari atau benda lainnya ke dalam tabung blender sewaktu alat sedang bekerja.
- Pastikan unit pisau telah terpasang erat pada tabung blender sebelum memasang tabung blender pada unit motor.
- Jangan menyentuh tepi tajam pada unit pisau blender saat Anda memegang atau membersihkannya. Pisau ini sangat tajam dan mudah melukai jari Anda.
- Jika unit pisau macet, cabut steker dari stopkontak sebelum mengeluarkan bahan makanan yang mengganjal pisau.

Perhatian

- Jangan mengisi tabung blender dengan bahan makanan yang lebih panas dari 80 °C.
- Agar jangan tumpah, jangan memasukkan cairan ke dalam tabung lebih dari 1,5 liter, khususnya saat mengolah pada kecepatan tinggi. Jangan memasukkan lebih dari 1 liter ke dalam tabung blender saat mengolah cairan yang panas atau bahan yang menimbulkan busa.
- Jika makanan lengket ke dinding tabung blender, matikan alat dan cabut stekernya. Kemudian gunakan spatula untuk melepas makanan tersebut dari dindingnya.
- Pastikan selalu tutup blender dirapatkan/terpasang dengan benar dan gelas ukurnya dimasukkan dengan benar dalam tutupnya sebelum Anda menghidupkan alat.
- HR2170 saja: Tabungnya terbuat dari kaca sehingga dapat pecah. Jangan jatuhkan tabung pada lantai keras. Juga hindari kejutan panas yang berlebihan. Jika tabungnya sangat dingin, bilaslah dengan air hangat-hangat kuku sebelum Anda menuang cairan panas ke dalamnya. Jika tabung kacanya retak, hentikan penggunaannya.

Gilingan (HR2168/HR2167/HR2161 saja)

Peringatan

- Pastikan unit pisau telah terpasang erat pada gelas gilingan sebelum memasang gelas gilingan pada unit motor.
- Jangan menyentuh tepi tajam pada unit pisau gilingan saat Anda memegang atau membersihkannya. Pisau ini sangat tajam dan mudah melukai jari Anda.
- Jangan sekali-kali menggunakan gilingan untuk menghaluskan bahan-bahan yang sangat keras seperti biji pala dan es batu.

Perhatian

- Jangan sekali-kali menggunakan lebih dari 30 detik tanpa henti. Biarkan gilingan dingin dulu hingga ke suhu kamar di antara siklus pengolahan.
- Olahlah selalu cengkeh, adas bintang dan adas manis bersama-sama bahan lainnya. Jika diolah secara terpisah, bahan-bahan ini dapat merusak bahan plastik alat itu.
- Gelas gilingan dapat berubah warna bila gilingan digunakan untuk mengolah bahan-bahan seperti cengkeh, adas dan kayu manis.
- Gilingan tidak cocok untuk mencacah daging mentah. Sebaiknya gunakan blender atau perajang.
- Jangan menggunakan gilingan untuk mengolah cairan seperti jus buah.

Perajang (HR2168 saja)**Peringatan**

- Pastikan unit sambungan telah terpasang erat pada mangkuk perajang sebelum memasang perajang pada unit motor.
- Jangan menyentuh tepi tajam pada unit pisau perajang saat Anda memegang atau membersihkannya. Pisau ini sangat tajam dan mudah melukai jari Anda.
- Jangan sekali-kali memasukkan jari atau benda lainnya ke dalam mangkuk perajang sewaktu alat sedang bekerja.
- Jika unit pisau macet, cabut steker dari stopkontak sebelum mengeluarkan bahan makanan yang mengganjal pisau.

Perhatian

- Pastikan selalu tutupnya terpasang dengan benar pada mangkuk perajang sebelum Anda menghidupkan alat.
- Jika makanan lengket ke dinding mangkuk perajang, matikan alat dan cabut stekernya. Kemudian gunakan spatula untuk melepas makanan tersebut dari dindingnya.

Filter (HR2168/HR2167 saja)**Perhatian**

- Jangan sekali-kali menggunakan filter untuk mengolah bahan yang lebih panas dari 80 °C.
- Jangan berlebihan mengisi filter. Jangan mengisi filter melebihi bagian logamnya.
- Pastikan selalu tutup tabung blender dirapatkan/terpasang dengan benar dan gelas ukur dimasukkan dengan benar dalam tutupnya sebelum Anda menghidupkan alat.
- Potong buah menjadi kecil-kecil sebelum memasukkannya dalam filter.
- Rendam bahan makanan kering, seperti kacang kedelai, sebelum memasukkannya ke dalam filter.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan instruksi petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan berdasarkan pada bukti ilmiah yang kini tersedia.

Kunci pengaman bawaan.

Fitur ini memastikan bahwa Anda hanya dapat menghidupkan alat jika telah memasang tabung blender dan tutupnya, gelas gilingan atau mangkuk perajang dan tutupnya (hanya tipe tertentu) pada unit motor dengan benar. Jika tabung blender dan tutupnya, gelas gilingan atau mangkuk perajang dan tutupnya telah dipasang dengan benar, kunci pengaman bawaan akan terbuka.

Pelindung sirkuit motor

Alat ini dilengkapi dengan pelindung sirkuit motor yang akan mematikan motor jika motor macet (dapat terjadi saat melakukan pekerjaan pengolahan berat atau jika alat tidak dipakai sesuai dengan instruksi pada petunjuk pengguna). Jika ini terjadi, pertama matikan alat lalu cabut steker dan biarkan dingin dulu hingga ke suhu kamar. Kemudian periksa apakah takaran bahan yang Anda olah tidak melebihi yang disebutkan di dalam petunjuk pengguna atau ada yang memblokir unit pisau.

Sebelum menggunakan alat pertama kali.

Bersihkan dengan seksama bagian-bagian yang akan bersentuhan dengan makanan sebelum alat digunakan untuk pertama kali (lihat bab 'Membersihkan').

Menggunakan alat

Blender

D Blender dimaksudkan untuk:

- Memblendir bahan cair seperti susu, saos, jus buah, sup, minuman campuran, shakes.
- Mencampur bahan makanan lembut seperti adonan kue penekuk atau mayones.
- Menghaluskan bahan makanan masak, misalnya untuk membuat makanan bayi.

Menyiapkan blender untuk penggunaan

- 1** Putar unit pisau blender searah jarum jam pada tabung blender (Gbr. 2).
- 2** Pasang tabung blender bersama unit pisau yang telah terpasang padanya ke unit motor dan putar searah jarum jam hingga terkunci ke posisinya (Gbr. 3).
- 3** Masukkan bahan-bahan di dalam tabung blender.
Biarkan bahan yang panas dingin dulu sebelum Anda memasukkan dalam tabung blender (suhu maks. 80 °C/175 °F).
- 4** HR2170 saja: kencangkan tutupnya pada tabung dengan menekan (1) dan memutaranya searah jarum jam (2). (Gbr. 4)

Catatan: Pastikan ayakan dalam tutupnya dipasang di depan cerat tabung agar bisa menuang isinya.

- 5** HR2168/HR2167/HR2161/HR2160 saja: rapatkan tutupnya.
- 6** Masukkan gelas ukur ke dalam tutupnya (Gbr. 5).

Catatan: Untuk melepas blender, ikuti petunjuk di atas dalam urutan dan arah terbalik.

Menggunakan blender

Jangan memasukkan jari atau benda lainnya (misalnya spatula) ke dalam tabung, pada saat blender sedang bekerja.

Jangan melebihi batas maksimum yang tertera pada tabung blender.

- 1** Masukkan steker listrik pada stopkontak dinding.
- 2** Hidupkan alat tersebut. (Gbr. 6)

Catatan: Lihat tabel blender di akhir petunjuk pengguna ini untuk takaran, setelan kecepatan dan waktu pengolahan yang dianjurkan.

- Untuk mengolah bahan pada kecepatan tertentu, putar kenop kontrol ke setelan kecepatan yang diinginkan.

Jangan biarkan alat beroperasi lebih dari 2 menit untuk setiap kalinya. Biarkan alat dingin dulu hingga ke suhu kamar sebelum Anda melanjutkan pengolahan.

- Untuk mengolah bahan sebentar saja, putar kenop kontrol ke setelan pulsa (P) beberapa kali.

Jangan sekali-kali menggunakan setelan pulsa lebih lama dari beberapa detik setiap kalinya.

- Untuk menghancurkan es, tekan tombol ICE.

- 3** Setelah Anda selesai mengolah, setel kenop kontrol ke 0 dan cabut steker alat dari stopkontak.

Selalu setel kenop kontrol ke 0 sebelum membuka tutupnya.

Tip

- Agar jangan tumpah, jangan masukkan cairan ke dalam tabung lebih dari 1,5 liter; khususnya saat mengolah pada kecepatan tinggi. Jangan memasukkan lebih dari 1 liter ke dalam tabung blender saat mengolah cairan yang panas atau bahan yang menimbulkan busa.
- Anda dapat menggunakan lubang pada tutupnya untuk menambahkan bahan saat alat sedang beroperasi (Gbr. 7).
- Jangan mengolah bahan makanan kering selama lebih dari 1 menit.
- Potong kecil-kecil bahan yang padat sebelum memasukkannya dalam tabung blender. Jangan mengolah jumlah besar dalam waktu yang sama. Olah bahan ini sedikit-sedikit.
- Jika Anda tidak puas dengan hasilnya saat memblender bahan makanan padat, gunakan setelan pulsa beberapa kali agar blender berjalan sebentar. Jika Anda ingin menggunakan spatula, matikan alat, buka tutupnya kemudian aduklah bahan tersebut. Anda juga dapat mengeluarkan sebagian isi tabung dan mengolah jumlah yang lebih kecil.
- Untuk menghancurkan es batu, masukkan maks. 5 bongkah kecil es batu setiap kalinya ke dalam tabung dan tekan tombol ICE beberapa kali.

HR2170 saja: Tabungnya terbuat dari kaca sehingga dapat pecah. Jangan jatuhkan tabung pada lantai keras. Juga hindari kejutan panas yang berlebihan. Jika tabungnya sangat dingin, bilaslah dengan air hangat-hangat kuku sebelum Anda menuang cairan panas ke dalamnya. Jika tabung kacanya retak, hentikan penggunaannya.

Filter (HR2168/HR2167 saja)

Anda dapat menggunakan filter untuk membuat saus, jus buah segar atau koktail yang ekstra lembut. Semua biji dan kulit akan tersaring.

HR2170/HR2160: Anda dapat memesan filter (nomor tipe HR2963) dari dealer Philips Anda.

Jangan sekali-kali mengisi filter melebihi bagian logamnya.

Jangan menggunakan filter untuk mengolah bahan makanan yang panas.

Menyiapkan filter untuk penggunaan

1 Pasang tabung blender ke unit motor (lihat bagian ‘Menyiapkan blender untuk penggunaan’ dalam bab ini).

2 Pasang filter ke dalam tabung blender (Gbr. 8).

Pastikan filter telah dipasang dengan benar pada bagian bawah tabung.

Alur pada filter dan sirip di dalam tabung blender membantu Anda memasang filter dalam posisi yang benar.

3 Pasang tutupnya.

Menggunakan filter

1 Masukkan bahan-bahan ke dalam filter melalui lubang pada tutupnya.

Potong buah menjadi kecil-kecil dan biji-bijian kering, seperti kacang kedelai sebelum mengolahnya dalam filter.

2 Tambahkan air atau cairan lainnya.

3 Masukkan gelas ukur dalam tutupnya, setel kenop kontrol pada kecepatan tertinggi dan biarkan alat berjalan maks. selama 40 detik.

4 Setel kenop kontrol ke 0 dan lepas tabung blender dari unit motor.

5 Tuangkan minuman melalui cerat pada tabung blender (Gbr. 9).

Pastikan tutupnya dirapatkan dan gelas ukur berada dalam tutupnya. Ini mencegah ampas dan kulit terikut dalam minuman Anda.

- 6** Untuk hasil optimal, pasang kembali tabungnya bersama sisa bahan yang ada ke alat, tanpa membuka/melepas tutupnya. Kemudian biarkan alat beroperasi selama beberapa detik lagi.
- 7** Tuangkan sisa minuman.
- 8** Setelah Anda selesai mengolah, setel kenop kontrol ke 0 dan cabut steker alat dari stopkontak.

Tip

- Bila Anda sedang mengolah bahan dalam jumlah banyak, kami sarankan Anda agar jangan memasukkan semuanya sekaligus. Mulailah mengolah sedikit demi sedikit dan biarkan alat bekerja selama beberapa detik. Kemudian matikan alat dan tambahkan lagi sedikit bahan. Ulangi prosedur ini sampai Anda selesai mengolah semua bahan. Selama pengolahan, tutupnya harus selalu terpasang pada tabung blender.
- Untuk mendapatkan hasil terbaik saat Anda membuat jus buah dan cocktail, tambahkan kurang-lebih 300 ml air untuk 150 g buah. Anda juga dapat menggunakan cairan lain, misalnya untuk membuat cocktail.
- Untuk membuat jus tomat, potong tomat menjadi empat dan masukkan melalui lubang pada tutupnya ke dalam pisau yang berputar.

Gilingan (HR2168/HR2167/HR2161 saja)

Anda dapat menggunakan gilingan untuk menghaluskan dan merajang bahan seperti biji merica, biji wijen, beras, gandum, daging kelapa, kacang-kacangan (berkulit), biji kopi, kacang kedelai kering, kacang polong kering, keju, remah roti, dsb.

Olahlah selalu cengkeh, adas bintang dan adas manis bersama-sama bahan lainnya. Jika diolah secara terpisah, bahan-bahan ini dapat merusak bahan plastik alat itu.

Gilingan tidak cocok untuk merajang bahan makanan yang sangat keras seperti biji pala dan es batu.

Jangan melebihi batas maksimum yang tertera pada gelas gilingan.

Menyiapkan gilingan untuk digunakan

- 1** Masukkan bahan dalam gelas gilingan (Gbr. 10).

Catatan: Lihat tabel blender di akhir petunjuk pengguna ini untuk takaran dan waktu pengolahan yang dianjurkan.

- 2** Putar unit pisau gilingan searah jarum jam pada gelas gilingan (Gbr. 11).

- 3** Balikkan gilingan yang telah terpasang dan putar searah jarum jam pada unit motor (Gbr. 12).

Menggunakan gilingan

- 1** Hidupkan alat tersebut.

Kami sarankan Anda menggunakan setelan pulsa atau setelan kecepatan 5.

Jangan biarkan gilingan beroperasi selama lebih dari 30 detik tanpa henti.

- 2** Setelah Anda selesai mengolah, setel kenop kontrol ke 0 dan cabut steker alat dari stopkontak.

- 3** Untuk melepas gilingan dari unit motor, putar gilingan berlawanan arah jarum jam.

Perajang (HR2168 saja)

Anda dapat menggunakan perajang ini untuk merajang bahan makanan seperti bawang bombai, daging, bumbu, sayuran, buah, cokelat, keju keras, makanan bayi dan biji-bijian.

HR2170/HR2161/HR2160: Anda dapat memesan perajang (nomor tipe HR2965) dari dealer Philips Anda.

Jangan gunakan perajang untuk mencampur cairan. Sebaiknya gunakan blender.

- 1 Masukkan unit sambungan dari perajang ke bagian bawah mangkuk perajang (1). Putar unit sambungan berlawanan arah jarum jam untuk mengencangkannya (2) (Gbr. 13).
- 2 Pasang mangkuk perajang (1) pada unit motor dan putar searah jarum jam untuk mengencangkannya (2). (Gbr. 14)
- 3 Pasang unit pisau perajang ke mangkuknya (Gbr. 15).
- 4 Masukkan bahan-bahan ke mangkuk perajang (Gbr. 16).

Catatan: Lihat tabel perajang di akhir petunjuk pengguna ini untuk takaran dan waktu pengolahan yang dianjurkan.

Jangan melebihi takaran maksimum seperti yang ditunjukkan pada tabel.

Tip: Potong-potong dahulu bagian yang besar menjadi seukuran 1-2 cm.

- 5 Pasang tutupnya pada mangkuk perajang (1) dan putar searah jarum jam untuk mengencangkannya (2) (Gbr. 17).

Catatan: Pastikan tutupnya telah dikencangkan dengan benar sebelum Anda menghidupkan alat.

- 6 Hidupkan alat tersebut.

Catatan: Jika alat bergetar karena makanan tidak terbagi merata, pegang tutupnya.

Catatan: Perajang bekerja selama beberapa detik. Jangan sekali-kali membiarkan beroperasi lebih lama dari beberapa detik.

- 7 Setelah Anda selesai mengolah, setel kenop kontrol ke 0 dan cabut steker alat dari stopkontak.
- 8 Putar mangkuk perajang berlawanan arah jarum jam (1) dan lepaskan dari unit motor (2). (Gbr. 18)
- 9 Putar unit sambungan searah jarum jam (1) dan lepaskan dari bagian bawah mangkuk perajang (2) (Gbr. 19).
- 10 Lepas tutupnya dan unit pisau dari mangkuk perajang.

Hati-hati saat memegang unit pisau. Ujung pemotong pada unit pisau tajam.

- 11 Kosongkan mangkuk perajang.

Selalu lepaskan unit pisau dari mangkuk perajang dan perajang dari unit motor sebelum mengosongkan mangkuknya.

Membersihkan (Gbr. 20)

Jangan sekali-kali menggunakan sabut gosok, bahan pembersih abrasif atau cairan agresif seperti bensin atau aseton untuk membersihkan alat.

- 1 Matikan dan cabut alat dari stopkontak.
- 2 Lepaskan semua komponen lepas-pasang sebelum Anda membersihkannya.
- 3 Bersihkan bagian-bagian alat yang lain seperti yang ditunjukkan pada tabel pembersihan.

Tip:

- Yang paling mudah adalah segera membersihkan alat dan bagian-bagiannya setelah digunakan.

- Jika perlu, bersihkan kasa filter dengan sikat yang sangat lembut.

Membersihkan tabung blender dengan cepat

- 1** Isilah blender hingga separo dengan air hangat dan tambahkan beberapa tetes cairan pembersih.
- 2** Putar kenop kontrol ke setelan pulsa beberapa kali.
- 3** Lepaskan tabung blender, kosongkan dan bilas di bawah keran.

Penyimpanan

- 1** Untuk menyimpan kabel listriknya, masukkan ke dalam tempat penyimpanan kabel di bagian alasnya (Gbr. 21).
- 2** Simpan alat di tempat yang aman dan kering.

Lingkungan

- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak dapat dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukannya, berarti Anda ikut membantu melestarikan lingkungan (Gbr. 22).

Garansi & servis

Jika Anda butuh servis atau informasi atau mengalami masalah, kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (Anda dapat menemukan nomor teleponnya dalam leaflet garansi internasional). Jika tidak ada Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda, kunjungi dealer Philips setempat.

Resep

Untuk resep lainnya, kunjungi situs web kami di www.philips.com/kitchen.

Makanan bayi

Bahan-bahan

- 250 g daging ayam matang
- 250 g kentang matang
- 250 g kacang hijau matang
- 450 ml susu

- 1** Pasang tabung blender pada unit motor (lihat bagian ‘Menggunakan alat’).
- 2** Potong-potong menjadi seukuran 2 x 2 x 2 cm.
- 3** Masukkan bahan-bahan di dalam tabung blender.
- 4** Blenderlah bahan selama 25 detik (atau lebih lama untuk mendapatkan hasil yang lebih halus).

Catatan: Jika Anda ingin menyiapkan makanan dalam jumlah besar, biarkan alat mendingin terlebih dulu hingga ke suhu ruangan sebelum Anda mengolah paket bahan selanjutnya.

Susu kedelai

Bahan-bahan

- 180 g kacang kedelai (direndam)
- 500 ml air hangat

- 1** Rendam kacang kedelai di dalam air bersih minimal 4 jam hingga empuk.

- 2** Proses kacang kedelai yang telah direndam dengan 500 ml air hangat di dalam blender kira-kira 60 detik hingga menjadi bubur halus.

Catatan: Jika Anda ingin menyiapkan makanan dalam jumlah besar, biarkan alat mendingin terlebih dulu hingga ke suhu ruangan sebelum Anda mengolah paket bahan selanjutnya.

Tepung Lima Rempah

Bahan-bahan

- 2 g adas manis
- 2 g bunga lawang
- 2 g kayu manis Cina
- 2 g cengkeh
- 2 g akar manis Cina

- 1** Masukkan semua bahan ke dalam gelas gilingan.

- 2** Giling bahan selama 30 detik.

Catatan: Jika Anda ingin menyiapkan makanan dalam jumlah besar, biarkan alat mendingin terlebih dulu hingga ke suhu ruangan sebelum Anda mengolah paket bahan selanjutnya.

Thai massaman

Bahan-bahan

- 20 g bawang merah
- 15 g bawang putih
- 7 g lengkuas
- 9 g serai
- 2 cengkeh
- 1 sdm biji ketumbar
- 1 sdm biji jintan putih
- 3 cabai kering
- 5 biji lada hitam
- 1 sdm terasi
- 1 sdm garam

- 1** Iris tipis lengkuas dengan ukuran kira-kira 1 cm.

- 2** Masukkan semua bahan ke dalam gelas gilingan.

- 3** Giling bahan selama 30 detik.

Catatan: Jika Anda ingin menyiapkan makanan dalam jumlah besar, biarkan alat mendingin terlebih dulu hingga ke suhu ruangan sebelum Anda mengolah paket bahan selanjutnya.

Sambal

Bahan-bahan

- 20 g cabai merah segar
- 30 g bawang merah
- 2 siung bawang putih

- 1** Iris cabai dan bawang merah dengan ukuran lebar hingga dapat dimasukkan ke mangkuk perajang.

- 2** Masukkan cabai, bawang merah, dan bawang putih ke mangkuk perajang.

- 3** Rajang bahan selama 30 detik.

Catatan: Jika Anda ingin menyiapkan makanan dalam jumlah besar, biarkan alat mendingin terlebih dulu hingga ke suhu ruangan sebelum Anda mengolah paket bahan selanjutnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Jika alat tidak berfungsi atau tidak berfungsi dengan benar, periksa dulu daftar di bawah ini atau kunjungi situs web Philips di www.philips.com/welcome. Jika masalah tersebut tidak disebutkan dalam daftar ini atau di Internet, alat tersebut mungkin cacat. Jika demikian, kami sarankan Anda membawa alat ke dealer atau pusat servis resmi Philips Anda.

Pertanyaan	Jawab
Mengapa alat tidak bekerja?	Alat ini dilengkapi dengan sistem keamanan. Alat tidak akan bekerja jika tabung blender dengan tutup, mangkuk perajang dengan tutup (hanya tipe tertentu) atau gelas gilingan (hanya tipe tertentu) tidak terpasang dengan benar pada unit motor atau tidak terpasang sama sekali. Periksa apakah Anda telah memasang tabung blender dengan tutupnya, mangkuk perajang dengan tutupnya atau gelas gilingan dengan benar (lihat bagian-bagian pada petunjuk pengguna ini). Setel kenop kontrol ke 0 terlebih dulu.
Dapatkah saya membersihkan semua komponen lepas-pasang dengan mesin cuci piring?	Ya, selain unit motor dan unit sambungan pada perajang (hanya tipe tertentu).
Apakah artinya 'pulsa'?	Saat Anda memutar kenop kontrol ke setelan pulsa, alat akan berjalan pada kecepatan tertinggi selama Anda menekan kenop dalam posisi ini. Gunakan setelan pulsa jika Anda ingin mengontrol sendiri pekerjaan pengolahan.
Dapatkah saya menuangkan bahan mendidih ke dalam tabung blender?	Tidak, biarkan cairan tersebut dingin dulu hingga 80 °C/175 °F untuk menghindari kerusakan pada tabung.
Mengapa motor menimbulkan bau tak sedap selama mengolah?	Wajar saja alat baru mengeluarkan bau tak sedap atau sedikit asap beberapa kali pemakaian pertama. Gejala ini akan berhenti setelah Anda sering menggunakan. Alat mungkin juga mengeluarkan bau tak sedap atau sedikit asap jika terlalu lama digunakan. Dalam hal ini, setel kenop kontrol ke 0 dan biarkan alat dingin dulu selama 60 menit.
Alat berhenti bekerja karena unit pisau terganjal. Apa yang harus saya lakukan?	Setel kenop kontrol ke 0 dan gunakan spatula untuk mengeluarkan bahan yang mengganjal unit pisau. Kami sarankan juga agar Anda mengolah bahan dalam takaran kecil.
Mengapa jus buah atau susu kedelai berisi banyak ampas atau kulit?	Agar ampas dan kulit tidak ikut terbawa dalam minuman Anda, pastikan bahwa filternya (hanya tipe tertentu) telah dipasang dengan benar dalam tabungnya, tutupnya telah dirapatkan dan gelas ukur dimasukkan dalam tutupnya.
Tabung blender bocor. Apa yang harus saya lakukan?	Setel kenop kontrol ke 0 dan tuangkanlah bahan. Pastikan gelang penyejal dipasang dengan benar pada unit pisau. Pastikan juga unit pisau telah dipasang dengan benar.

제품 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

이 제품에는 액세서리가 전혀 조립되지 않았거나 잘못 조립되었을 경우 제품 작동을 방지하는 안전 시스템이 내장되어 있습니다.

각 부의 명칭 (그림 1)

- 1** 속도 조절기가 있는 본체
- 2** 순간작동 설정
- 3** 속도 설정
- 4** 얼음 버튼
- 5** 플라스틱 용기 칼날
- 6** 플라스틱 블렌더 용기(HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)
- 7** 용량 표시
- 8** 플라스틱 블렌더 용기 뚜껑
- 9** 덮개 구멍
- 10** 계량컵
- 11** 필터(HR2168/HR2167 모델만 해당)
- 12** 유리 용기 칼날
- 13** 유리 블렌더 용기(HR2170 모델만 해당)
- 14** 용량 표시
- 15** 유리 블렌더 용기 뚜껑
- 16** 덮개 구멍
- 17** 계량컵
- 18** 결합부
- 19** 다지기 용기(HR2168 모델만 해당)
- 20** 다지기 칼날부
- 21** 다지기 용기 뚜껑
- 22** 분쇄기 칼날
- 23** 분쇄기 용기(HR2168/HR2167/HR2161 모델만 해당)

중요사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

일반

위험

- 절대로 본체를 물 또는 다른 액체에 넣거나 흐르는 수돗물로 세척하지 마십시오. 본체를 청소할 경우에는 젖은 천을 사용하십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 플러그, 전원 코드 또는 기타 부품이 손상된 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 블렌더 용기, 분쇄기 용기(특정 모델만 해당) 또는 다지기 용기(특정 모델만 해당)를 이용하여 전원을 켜거나 끄지 마십시오.
- 사람이 없는 상태에서 블렌더를 작동시켜 놓지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사용자(어린이 포함)는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 지도와 도움을 받으십시오.

- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 특히 제품이 전원에 연결되어 있을 때는 칼날을 만지지 마십시오. 칼날은 매우 날카롭습니다.

주의

- 부품을 분해, 조립 및 조정하기 전에 반드시 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
- 블렌더 용기, 분쇄기(특정 모델만 해당) 용기 및 다자기 용기(특정 모델만 해당)의 최대 표시선을 초과하여 재료를 넣지 마십시오.
- 해당 표에 표시된 최대량 및 작동 시간을 초과하지 마십시오.
- 블렌더 용기, 분쇄기 용기(특정 모델만 해당) 또는 다자기 용기(특정 모델만 해당)가 본체에 올바르게 장착된 경우에만 제품이 작동합니다.

블렌더**경고**

- 제품이 작동 중일 때는 절대로 블렌더 용기 내부에 손이나 다른 물건을 넣지 마십시오.
- 블렌더 용기를 본체에 조립하기 전에 칼날부가 블렌더 용기에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 블렌더 칼날을 작동하거나 세척할 경우, 날카로운 부분을 만지지 않도록 주의하십시오. 매우 날카롭기 때문에 손을 다칠 위험이 있습니다.
- 칼날부에 음식물이 끼어 움직이지 않으면 먼저 전원 코드를 뽑은 다음, 칼날의 움직임을 방해하는 음식물을 꺼내십시오.

주의

- 블렌더 용기에 80° C 이상 되는 재료를 절대 넣지 마십시오.
- 특히 고속으로 작동할 경우, 내용물이 흘러나오지 않도록 블렌더 용기에 액체를 1.5 리터 이상 넣지 마십시오. 뜨거운 액체 또는 거품을 내는 재료인 경우에는 블렌더 용기에 1리터 이상 넣지 마십시오.
- 음식이 블렌더 용기의 벽면에 붙으면 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑은 후 주걱을 사용하여 벽면에 붙은 음식을 떼어내십시오.
- 제품의 전원을 켜기 전에 뚜껑을 제대로 닫고 계량컵을 올바르게 설치하였는지 확인하십시오.
- HR2170 모델만 해당: 용기 재질이 유리이므로 깨질 수 있습니다. 용기를 바닥에 떨어뜨리거나 과도한 열 충격을 가하지 마십시오. 용기가 매우 차가운 경우에는 뜨거운 액체를 넣기 전에 미지근한 물에 넣어 잘 헹구십시오. 유리 용기에 금이 가면 사용하지 마십시오.

분쇄기(HR2168/HR2167/HR2161 모델만 해당)**경고**

- 분쇄기 비이커를 본체에 조립하기 전에 칼날부가 분쇄기 비이커에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 분쇄기 칼날을 작동하거나 세척할 경우, 날카로운 부분을 만지지 않도록 주의하십시오. 매우 날카롭기 때문에 손을 다칠 위험이 있습니다.
- 넛맥 또는 조각 얼음과 같이 매우 단단한 재료를 절대 분쇄기로 갈지 마십시오.

주의

- 연속해서 30초 이상 작동시키지 마십시오. 작동 중간에 분쇄기를 실내 온도와 비슷해질 때까지 식혀 주십시오.
- 정향, 스타 아尼斯 및 아尼斯는 항상 다른 재료와 함께 가공하십시오. 따로 넣으면 이 재료들이 제품의 플라스틱 부품에 손상을 줄 수 있습니다.

- 정향, 아尼斯 및 계피 같은 재료들을 분쇄기로 가공하면 분쇄기 비이커의 색상이 변할 수도 있습니다.
- 이 분쇄기는 날고기를 다지는데 적합하지 않습니다. 대신 블렌더나 다지기를 사용하십시오.
- 과일 쥬스와 같은 액체를 만들 때는 분쇄기를 사용하지 마십시오.

다지기(HR2168 모델만 해당)

경고

- 다지기를 본체에 조립하기 전에 결합부를 다지기 용기에 단단히 고정하십시오.
- 다지기 칼날을 작동하거나 세척할 경우, 날카로운 부분을 만지지 않도록 주의하십시오. 매우 날카롭기 때문에 손을 다칠 위험이 있습니다.
- 제품이 작동 중일 때는 절대로 다지기 용기 내부에 손이나 다른 물건을 넣지 마십시오.
- 칼날부에 음식물이 끼어 움직이지 않으면 먼저 전원 코드를 뽑은 다음, 칼날의 움직임을 방해하는 음식물을 꺼내십시오.

주의

- 제품을 켜기 전에 항상 다지기 용기 뚜껑이 제대로 잠겼는지 확인하십시오.
- 음식이 다지기 용기의 벽면에 붙으면 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑은 후 주걱을 사용하여 벽면에 붙은 음식을 떼어내십시오.

필터(HR2168/HR2167 모델만 해당)

주의

- 80° C 이상의 재료 가공시에는 절대로 필터를 사용하지 마십시오.
- 필터를 무리하게 사용하지 마십시오. 재료를 필터의 금속 부분 이상으로 넣지 마십시오.
- 제품의 전원을 켜기 전에 블렌더 용기의 뚜껑을 제대로 닫고 계량컵을 올바르게 설치하였는지 반드시 확인하십시오.
- 과일은 잘게 잘라 필터 안에 넣으십시오.
- 콩과 같은 마른 음식 재료를 필터에 넣기 전에 우선 물에 담궈서 불리십시오.

전자기장(EMF)

이 필립스 제품은 전자기장(EMF)과 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

내장된 안전 잠금 장치

이 장치는 제품 블렌더 용기와 뚜껑, 분쇄기 비이커 또는 다지기 용기와 뚜껑(특정 모델만 해당)이 본체와 올바르게 조립되었을 때만 스위치를 켤 수 있도록 해 줍니다. 각 용기와 뚜껑이 올바르게 조립되면, 내장된 안전 잠금 장치가 해제됩니다.

모터 회로 보호기

이 제품에는 모터 회로 보호기가 장착되어 있어, 제품이 과열되거나 사용 설명서의 지침을 따르지 않고 제품을 사용할 경우 발생할 수 있는 모터 과부하 시 모터의 전원이 차단됩니다. 이런 경우에는 먼저 제품의 전원을 끄고 코드를 뽑은 후 실온과 비슷해질 때까지 제품의 열기를 식히십시오. 그런 다음, 조리 중인 재료가 사용 설명서에 표시된 양을 초과하지 않았는지 또는 칼날부에 재료가 끼어 있지 않은지 확인하십시오.

최초 사용 전

제품을 처음 사용하기 전에 음식과 닿는 부품은 깨끗이 세척하십시오(‘청소’란 참조).

제품 사용

블렌더

▶ 블렌더의 용도:

- 유제품, 소스, 과일 주스, 수프, 혼합 음료 및 쉐이크와 같은 액체의 블렌딩
- 팬케익 반죽 또는 마요네즈와 같은 부드러운 재료의 혼합
- 이유식과 같이 요리된 재료로 퓨레 만들기

블렌더 사용 전 준비

- 1** 블렌더 칼날을 시계 방향으로 돌려 블렌더 용기에 고정하십시오 (그림 2).
- 2** 칼날을 조립한 블렌더 용기를 본체에 놓고 시계 방향으로 돌려 조립하십시오 (그림 3).

3 재료를 블렌더 용기에 넣으십시오.

뜨거운 재료는 블렌더 용기에 넣기 전에 식히십시오(최고 온도 80°C/175°F).

- 4** HR2170 모델만 해당: 뚜껑을 용기에 놓고 누른 다음(1) 시계 방향으로 돌려 고정하십시오(2). (그림 4)

참고: 액체를 따를 수 있도록 뚜껑의 거름망이 용기의 배출구 앞쪽을 향하도록 하십시오.

- 5** HR2168/HR2167/HR2161/HR2160 모델만 해당: 뚜껑을 닫으십시오.

- 6** 계량컵을 뚜껑에 꽂으십시오 (그림 5).

참고: 블렌더를 분해하려면 위의 지침을 역순으로 진행하십시오.

블렌더 사용 방법

믹서기 작동 중에는 손가락이나 주걱 등 다른 물체를 절대로 용기 안에 넣지 마십시오.

블렌더 용기의 최대 수량 표시선을 초과하지 마십시오.

- 1** 전원 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

- 2** 제품의 전원을 켜십시오. (그림 6)

참고: 권장량, 속도 설정 및 작동 시간은 이 설명서 마지막 부분의 블렌더 표를 참고하십시오.

- 재료를 특정 속도로 가공하려면 원하는 속도로 속도 조절기를 돌리십시오.

블렌더를 한 번에 2분 이상 작동하지 마십시오. 한번 사용한 후에는 제품이 실내 온도와 비슷해질 때까지 기다렸다가 다시 사용하십시오.

- 재료를 짧은 시간에 섞으려면 속도 조절기를 순간작동(P) 설정으로 여러 번 돌리십시오.

한 번에 수 초 이상 순간작동 설정을 사용하지 마십시오.

- 얼음을 분쇄하려면 ICE(얼음) 버튼을 누르십시오.

- 3** 블렌더 사용이 끝나면 속도 조절기를 ‘0’에 맞추고 플러그를 뽑으십시오.

뚜껑을 열기 전에 항상 속도 조절기를 ‘0’에 맞추십시오.

도움말

- 내용물이 흘러나오지 않도록(특히 고속으로 작동할 경우) 블렌더 용기에 액체를 1.5 리터 이상 넣지 마십시오. 뜨거운 액체 또는 거품을 내는 재료인 경우에는 블렌더 용기에 1리터 이상 넣지 마십시오.
- 제품 작동 중에는 뚜껑에 있는 구멍을 통해 재료를 추가할 수 있습니다 (그림 7).
- 마른 재료를 넣고 1분 이상 작동하지 마십시오.

- 블렌더 용기에 고체 재료를 넣을 경우 미리 작게 자른 후 넣으십시오. 한번에 너무 많은 고체 재료를 넣고 작동시키지 마십시오. 재료를 소량으로 나누어 여러 번 작동하십시오.
- 딱딱한 재료를 갈았을 때 결과가 만족스럽지 않은 경우, 순간작동 설정을 여러 번 사용하여 블렌더를 짧게 작동하십시오. 주걱을 사용할 경우에는 제품의 전원을 끈 다음 재료를 섞으십시오. 또한 용기에 있는 내용물을 덜어 내어 더 작은 양을 가공할 수도 있습니다.
- 각얼음을 분쇄하려면 최대 5개의 각얼음을 용기에 넣고 ‘ICE(얼음)’ 버튼을 몇 번 누르십시오.

HR2170 모델만 해당: 용기 재질이 유리이므로 깨질 수 있습니다. 용기를 바닥에 떨어뜨리거나 과도한 열 충격을 가하지 마십시오. 용기가 매우 차가운 경우에는 뜨거운 액체를 넣기 전에 미지근한 물에 넣어 잘 헹구십시오. 유리 용기에 금이 가면 사용하지 마십시오.

필터(HR2168/HR2167 모델만 해당)

필터를 사용하면 매우 고운 혼합 소스, 신선한 과일 주스 또는 칵테일을 만들 수 있습니다. 씨와 껌질이 모두 필터에서 걸러집니다.

HR2170/HR2160: 필립스 판매점에서 필터(제품 유형 번호 HR2963)를 주문할 수 있습니다.

필터의 금속 부분 이상 재료를 넣지 마십시오.

필터로 뜨거운 재료를 거르지 마십시오.

필터 사용 전 준비

- 1 블렌더 용기를 본체에 장착하십시오(이 란의 ‘블렌더 사용 전 준비’ 항목을 참조하십시오).
- 2 블렌더 용기에 필터를 넣으십시오 (그림 8).
필터가 용기 아래쪽에 제대로 고정되었는지 확인하십시오.
필터의 흄과 블렌더 용기 안쪽의 불룩한 부분을 잘 맞추면 필터를 올바른 위치에 고정할 수 있습니다.
- 3 뚜껑을 닫으십시오.

필터 사용 방법

- 1 뚜껑의 구멍을 통해 필터에 재료를 넣으십시오.
필터에 거르기 전에 과일은 조각으로 작게 자르고 콩과 같이 마른 재료는 물에 불리십시오.
- 2 물이나 다른 액체를 첨가하십시오.
- 3 계량컵을 뚜껑에 꽂고 속도 조절기를 최고 속도에 놓은 다음 제품을 약 40초간 작동하십시오.
- 4 속도 조절기를 ‘0’으로 놓고 본체에서 블렌더 용기를 분리하십시오.
- 5 블렌더 용기의 배출구로 음료를 따라내십시오 (그림 9).
뚜껑이 단하고 계량컵이 뚜껑에 꽂혔는지 확인하십시오. 이렇게 해야 음료에 씨와 껌질이 섞이지 않습니다.
- 6 최상의 결과를 얻으려면 뚜껑을 열거나 분리하지 않은 상태에서 재료가 남아 있는 용기를 다시 제품에 꽂은 다음 몇 초간 작동하십시오.
- 7 나머지 음료를 따르십시오.
- 8 블렌더 사용이 끝나면 속도 조절기를 ‘0’에 맞추고 플러그를 뽑으십시오.

도움말

- 많은 양을 가공할 때는 필터에 모든 재료를 한꺼번에 넣지 마십시오. 소량만 넣고 잠깐 동안 블렌더를 작동하여 가공한 다음 블렌더를 끄고 소량을 더 넣으십시오. 이 방법을 반복하여 모든 재료를 가공하십시오. 가공 중에는 절대로 용기의 뚜껑을 열지 마십시오.
- 과일 주스와 칵테일을 만들 때 최상의 결과를 얻으려면 과일 150g당 물을 약 300ml 추가하십시오. 다른 액체를 넣어 칵테일 등을 만들 수도 있습니다.
- 토마토 주스를 만들려면 토마토를 네 조각으로 잘라 뚜껑의 구멍을 통해 회전하는 칼날 위에 떨어뜨리십시오.

분쇄기(HR2168/HR2167/HR2161 모델만 해당)

분쇄기를 사용하면 통후추, 참깨, 쌀, 밀, 코코넛 과육, (껍질을 깐) 견과류, 커피 원두, 말린 콩, 말린 완두콩, 치즈, 빵가루 등의 재료를 갈거나 뽕을 수 있습니다.

정향, 스타 아니스 및 아니스는 항상 다른 재료와 함께 가공하십시오. 따로 넣으면 이 재료들이 제품의 플라스틱 부품에 손상을 줄 수 있습니다.

육두구, 각얼음과 같이 매우 딱딱한 재료는 이 분쇄기에 적합하지 않습니다.

분쇄기 비이커의 최대 수량 표시선을 초과하지 마십시오.

분쇄기 사용 전 준비

- 1 분쇄기 비이커에 재료를 넣으십시오 (그림 10).

참고: 권장량 및 작동 시간은 이 설명서 마지막 부분의 분쇄기 표를 참고하십시오.

- 2 분쇄기 칼날을 시계 방향을 돌려 분쇄기 비이커에 고정하십시오 (그림 11).

- 3 조립된 분쇄기를 거꾸로 들고 시계 방향으로 돌려 본체에 고정하십시오 (그림 12).

분쇄기 사용 방법

- 1 제품의 전원을 켜십시오.

순간작동 설정이나 속도 설정 5를 사용하는 것이 좋습니다.

연속해서 30초 이상 작동하지 마십시오.

- 2 블렌더 사용이 끝나면 속도 조절기를 ‘0’에 맞추고 플러그를 뽑으십시오.

- 3 분쇄기를 시계 반대 방향으로 돌려 본체에서 분리하십시오.

다지기(HR2168 모델만 해당)

다지기를 사용하면 양파, 고기, 허브, 야채, 과일, 초콜릿, 단단한 치즈, 이유식 및 견과류와 같은 재료를 다질 수 있습니다.

HR2170/HR2161/HR2160: 필립스 판매점에서 다지기(제품 유형 번호 HR2965)를 주문할 수 있습니다.

다지기를 액체를 섞는 용도로 사용하지 마십시오. 액체를 섞을 때는 블렌더를 사용하십시오.

- 1 다지기의 결합부를 다지기 용기 하단에 끼우십시오(1). 결합부를 시계 반대 방향으로 돌려 고정하십시오(2) (그림 13).

- 2 다지기 용기를 본체에 장착한 다음 (1) 시계 방향으로 돌려 고정하십시오 (2). (그림 14)

- 3 다지기 칼날부를 다지기 용기에 장착하십시오 (그림 15).

- 4 재료를 다지기 용기에 넣으십시오 (그림 16).

32 한국어

참고: 권장량 및 작동 시간은 이 설명서 마지막 부분의 다지기 표를 참고하십시오.
표에 있는 최대량을 초과하지 마십시오.

도움말: 재료를 1~2cm 크기로 미리 썰어 놓으십시오.

5 다지기 용기의 뚜껑을 닫고(1) 시계 방향으로 돌려 고정시키십시오(2) (그림 17).

참고: 제품의 전원을 켜기 전에 뚜껑이 제대로 고정되어 있는지 확인하십시오.

6 제품의 전원을 켜십시오.

참고: 음식물이 고루 분배되지 않아 제품이 흔들리면 손으로 뚜껑을 누르십시오.

참고: 다지기는 몇 초면 끝납니다. 그 이상 제품을 작동하지 마십시오.

7 블렌더 사용이 끝나면 속도 조절기를 ‘0’에 맞추고 플러그를 뽑으십시오.

8 다지기 용기를 시계 반대 방향으로 돌려(1) 본체에서 분리하십시오(2). (그림 18)

9 결합부를 시계 방향으로 돌려(1) 다지기 용기 바닥에서 분리하십시오(2) (그림 19).

10 뚜껑을 열고 다지기 용기에서 칼날부를 분리하십시오.

칼날부를 다룰 때 조심하십시오. 칼날이 날카롭습니다.

11 다지기 용기를 비우십시오.

다지기 용기를 비우기 전에 다지기 용기에서 칼날부를 분리하고 본체에서 다지기를 분리하십시오.

청소 (그림 20)

제품을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.

1 전원을 끄고 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.

2 청소하기 전에 항상 분리할 수 있는 부품을 모두 분리하십시오.

3 청소 표에 나와 있는 대로 제품의 여러 부품을 청소하십시오.

도움말:

- 사용 후 바로 제품과 부품을 청소하는 것이 가장 편리합니다.
- 필요한 경우 매우 부드러운 브러시로 필터의 망을 청소하십시오.

블렌더 용기 간이 세척

1 블렌더에 미지근한 물을 반 정도 채우고 세제를 몇 방울 넣으십시오.

2 순간작동 설정으로 속도 조절기를 몇 번 돌리십시오.

3 블렌더 용기를 분리하고 비운 다음 물에 행구십시오.

보관

1 전원 코드를 보관하려면 코드를 본체의 코드 보관함에 넣습니다 (그림 21).

2 안전하고 건조한 장소에 제품을 보관하십시오.

환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 22).

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지 www.philips.co.kr를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

요리법

www.philips.co.kr/kitchen에서 더 많은 요리법을 찾아볼 수 있습니다.

이유식

재료

- 삶은 닭고기 250g
- 삶은 감자 250g
- 삶은 콩깍지 250g
- 우유 450ml

1 블렌더 용기를 본체에 장착하십시오(‘제품 사용법’ 참조).

2 재료를 2x2x2cm 크기로 미리 썰어 놓습니다.

3 재료를 블렌더 용기에 넣으십시오.

4 재료를 25초 간 혼합하거나, 부드러운 상태로 만들려면 더 오래 혼합하십시오.

참고: 더 많은 양을 준비할 경우 다음 분량의 재료를 가공하기 전에 제품을 실내 온도와 비슷해질 때까지 식혀 주십시오.

두유

재료

- 불린 대두 180g
- 따뜻한 물 500ml

1 대두가 부드러워질 때까지 깨끗한 물에 4시간 이상 불립니다.

2 불린 대두를 따뜻한 물 500ml와 함께 블렌더에 넣어 부드러운 액체가 될 때까지 60초 동안 가공합니다.

참고: 더 많은 양을 준비할 경우 다음 분량의 재료를 가공하기 전에 제품을 실내 온도와 비슷해질 때까지 식혀 주십시오.

오향 가루

재료

- 아니스 2g
- 스타아니스 2g
- 계피 2g
- 정향 2g
- 감초 2g

1 분쇄기 용기에 모든 재료를 넣으십시오.

2 재료를 30초 동안 갈아주십시오.

참고: 더 많은 양을 준비할 경우 다음 분량의 재료를 가공하기 전에 제품을 실내 온도와 비슷해질 때까지 식혀 주십시오.

태국 마싸만

재료

- 샬롯(작은 양파) 20g
- 마늘 15g
- 양강근 7g
- 레몬그라스 9g
- 정향 2개
- 고수 씨앗 1큰스푼
- 쿠민씨앗 1큰스푼
- 마른 고추 3개
- 통후추 5개
- 새우 페이스트 1큰스푼
- 소금 1큰스푼

1 양강근을 약 1cm 크기로 자르십시오.

2 분쇄기 용기에 모든 재료를 넣으십시오.

3 재료를 30초 동안 갈아주십시오.

참고: 더 많은 양을 준비할 경우 다음 분량의 재료를 가공하기 전에 제품을 실내 온도와 비슷해질 때까지 식혀 주십시오.

칠리 페이스트

재료

- 신선한 흥고추 20g
- 샬롯(작은 양파) 30g
- 정향 마늘 2개

1 다지기 용기에 넣을 수 있도록 고추와 샬롯을 큰 조각으로 자르십시오.

2 다지기 용기에 고추, 샬롯 및 마늘을 넣으십시오.

3 재료를 30초 동안 다집니다.

참고: 더 많은 양을 준비할 경우 다음 분량의 재료를 가공하기 전에 제품을 실내 온도와 비슷해질 때까지 식혀 주십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)

제품이 작동하지 않거나 올바르게 작동하지 않는 경우에는 먼저 아래 목록의 내용을 확인하거나 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하십시오. 해당 문제가 아래 목록이나 인터넷에 포함되어 있지 않은 경우, 제품에 결함이 있을 수 있습니다. 이런 경우, 필립스 서비스 지정점을 방문하시기 바랍니다.

질문	답변
제품이 작동하지 않습니다.	본 제품에는 안전 기능이 탑재되어 있습니다. 뚜껑이 있는 블렌더 용기, 뚜껑이 있는 다지기 용기(특정 모델만 해당) 또는 분쇄기 용기(특정 모델만 해당)가 본체에 제대로 장착되지 않았거나 전혀 장착되지 않았을 경우 제품이 작동하지 않습니다. 뚜껑이 있는 블렌더 용기, 뚜껑이 있는 다지기 용기 또는 분쇄기 용기가 제대로 장착되었는지 확인하십시오(이 사용 설명서의 해당 항목 참조). 먼저 속도 조절기를 ‘0’으로 맞추십시오.

질문	답변
분리 가능한 부품은 모두 식기세척기에서 세척할 수 있습니까?	예. 하지만 본체와 다지기의 결합부는 식기세척기에서 세척할 수 없습니다(특정 모델만 해당).
‘순간작동’ 이란 무슨 뜻입니까?	조절기를 순간작동 설정으로 돌리면 조절기가 이 위치에 있는 동안에는 제품이 최고 속도로 작동하게 됩니다. 가공 과정을 더 잘 조절하고 싶은 경우에는 순간작동 설정을 사용하십시오.
블렌더 용기에 끓고 있는 뜨거운 액체를 부울 수 있습니까?	아니요. 용기의 손상을 막기 위해 뜨거운 액체는 80°C(175°F)로 식히십시오.
왜 작동할 때 모터에서 불쾌한 냄새가 납니다?	새 제품에서 불쾌한 냄새가 나거나 처음 몇 번 사용할 때 연기가 나는 것은 일반적입니다. 이러한 현상은 제품을 몇 번 사용하고 나면 없어집니다. 제품을 너무 오래 사용해도 불쾌한 냄새나 연기가 날 수 있습니다. 이런 경우에는 속도 조절기를 ‘0’으로 맞추고 60분 정도 식히십시오.
칼날에 재료가 꺼서 제품이 작동하지 않습니다. 어떻게 해야 합니까?	속도 조절기를 ‘0’으로 맞추고 주걱을 사용하여 칼날부에 끈 재료를 제거 하십시오. 가공 분량을 줄이는 것이 좋습니다.
과일 주스나 두유에 과육이나 껌질이 많이 섞이는 이유는 무엇입니다?	음료에 씨와 껌질이 섞이지 않게 하려면 필터(특정 모델만 해당)가 용기에 제대로 장착되었는지, 뚜껑이 닫혔는지, 그리고 계량컵을 뚜껑에 꽂았는지 확인하십시오.
블렌더 용기가 샌니다. 어떻게 해야 합니까?	속도 조절기를 ‘0’으로 맞추고 재료를 덜어 내십시오. 봉합 링이 칼날부에 제대로 장착되었는지 확인하십시오. 칼날부가 정확하게 장착되었는지 확인하십시오.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리, 5자리, 6자리, 9자리로 표기될 수 있습니다.
(1) 4자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2)
5자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산
(3) 6자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산
(4) 9자리일 경우 : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001
→ 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산
(5) 기타제조번호에 대한 문의사항은 (02)709-1200으로 연락바랍니다.

Pengenalan

Tahniah di atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Perkakas ini dilengkapi dengan sistem keselamatan terbina dalam yang menghalangnya dari berfungsi jika aksesori telah tersalah pasang atau tidak dipasang langsung.

Perihalan umum (Gamb. 1)

- 1** Unit motor dengan tombol kawalan
- 2** Seting pulse (denyutan)
- 3** Seting kelajuan
- 4** Butang Ais
- 5** Unit mata pisau pengisar plastik
- 6** Balang pengisar plastik (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)
- 7** Penunjuk paras
- 8** Tudung balang pengisar plastik
- 9** Lubang pada penutup
- 10** Cawan penyukat
- 11** Penapis (HR2168/HR2167 sahaja)
- 12** Unit mata pisau pengisar kaca
- 13** Balang pengisar kaca (HR2170 sahaja)
- 14** Penunjuk paras
- 15** Penutup balang pengisar kaca
- 16** Lubang pada penutup
- 17** Cawan penyukat
- 18** Unit gandingan
- 19** Mangkuk pencincang (HR2168 sahaja)
- 20** Unit pisau pencincang
- 21** Tudung pencincang
- 22** Unit pisau pengisar
- 23** Bikar pengisar (HR2168/HR2167/HR2161 sahaja)

Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.

Am

Bahaya

- Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa cecair lain, mahupun membilasnya di bawah air paip. Hanya gunakan kain lembap untuk membersihkan unit motor.

Amaran:

- Periksa sama ada voltan yang ditunjukkan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur kuasa setempat sebelum anda menyambungkan perkakas.
- Jika kord sesalur rosak, ia mestil digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur kuasa atau bahagian lain telah rosak.
- Jangan sekali-kali gunakan balang pengisar, bikar pengisar (jenis tertentu sahaja) atau mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja) untuk menghidupkan dan mematikan perkakas.
- Jangan biarkan perkakas digunakan tanpa pengawasan.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali

mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.

- Kanak-kanak hendaklah diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Elakkan daripada menyentuh mata pisau, terutamanya apabila peralatan diplaq masuk. Mata pisauannya amat tajam.

Awas

- Sentiasa cabut plag perkakas sebelum anda memasang, membuka atau membuat pelarasan terhadap mana-mana bahagian.
- Jangan sekali-kali menggunakan sebarang aksesori atau bahagian daripada pengilang lain atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
- Jangan melebihi penunjuk maksimum pada balang pengisar, bikar pengisar (jenis tertentu sahaja) dan mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja).
- Jangan melebihi kuantiti maksimum dan masa pemprosesan yang dinyatakan dalam jadual yang relevan.
- Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar, bikar pengisar (jenis tertentu sahaja) atau mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja) dipasang pada unit motor dengan betul.

Pengisar

Amaran:

- Jangan sekali-kali masukkan jari anda atau objek lain ke dalam balang semasa perkakas sedang berjalan.
- Pastikan mata pisau dipasang dengan kejap pada balang pengisar sebelum anda memasang balang pengisar pada unit motor.
- Jangan sentuh mata pisau pemotongan pada unit pisau pengisar apabila anda mengendali atau membersihkannya. Ia sangat tajam dan jari anda boleh terluka dengan mudah.
- Jika unit pisau tersekat, cabut plag perkakas sebelum anda mengeluarkan bahan-bahan yang menyekat pisau.

Awas

- Jangan sekali-kali mengisi balang pengisar dengan bahan yang lebih panas dari 80°C.
- Untuk mencegah tumpahan, jangan masukkan lebih daripada 1.5 liter cecair ke dalam balang pengisar; lebih-lebih lagi apabila anda mengisar pada kelajuan tinggi. Jangan masukkan lebih daripada 1liter ke dalam balang pengisar apabila anda memproses cecair panas atau bahan yang mudah berbuuh.
- Jika makanan melekat pada dinding balang pengisar, matikan perkakas dan cabut plagnya. Kemudian gunakan spatula untuk mengeluarkan makanan tersebut dari dinding.
- Sentiasa pastikan tudung ditutup/dipasang dengan betul pada balang dan cawan penyukat dimasukkan dengan betul ke dalam tudung sebelum anda menghidupkan perkakas.
- HR2170 sahaja: Balang dibuat daripada kaca, oleh itu ia boleh pecah. Jangan jatuhkan balang ke lantai yang keras. Juga elakkan kejutan suhu yang melampau. Jika balang terlalu sejuk, bilas betul-betul dengan air suam sebelum anda menuang cecair panas ke dalamnya. Jika balang kaca ini retak, berhenti menggunakanannya.

Pengisar kering (HR2168/HR2167/HR2161 sahaja)

Amaran:

- Pastikan mata pisau dipasang dengan kejap pada bikar pengisar sebelum anda memasang bikar pengisar pada unit motor.
- Jangan sentuh mata pemotong unit mata pisau pengisar apabila anda mengendali atau membersihkannya. Ia sangat tajam dan jari anda boleh terluka dengan mudah.
- Jangan sekali-kali menggunakan pengisar untuk mengisar bahan-bahan yang sangat keras seperti buah pala dan ketulan ais.

Awas

- Jangan sekali-kali menggunakan pengisar lebih daripada 30 saat tanpa gangguan. Biarkan pengisar menyejuk ke suhu bilik antara kitaran pemprosesan.
- Sentiasa proseskan bunga cengkih, bunga lawang dan jintan manis bersama-sama dengan bahan-bahan lain. Jika diproses berasingan, bahan-bahan ini mungkin meninggalkan kesan ke atas bahan-bahan plastik perkakas ini.
- Bikar pengisar mungkin berubah warna apabila pengisar digunakan untuk memproses bahan-bahan seperti bunga cengkih, jintan manis dan kayu manis.
- Pengisar kering tidak sesuai digunakan untuk mencincang daging mentah. Gunakan pengisar atau pencincang untuk tujuan ini.
- Jangan gunakan pengisar untuk memproses cecair seperti jus buah-buahan.

Pencincang (HR2168 sahaja)**Amaran:**

- Pastikan unit gandingan dipasang dengan kejap pada mangkuk pencincang sebelum anda memasang pencincang pada unit motor.
- Jangan sentuh mata pemotongan unit mata pisau pengisar apabila anda mengendali atau membersihkannya. Ia sangat tajam dan jari anda boleh terluka dengan mudah.
- Jangan sekali-kali masukkan jari anda atau objek lain ke dalam mangkuk pencincang semasa perkakas sedang berjalan.
- Jika unit pisau tersekat, cabut plag perkakas sebelum anda mengeluarkan bahan-bahan yang menyekat pisau.

Awas

- Sentiasa pastikan tudung dipasang dengan betul pada mangkuk pencincang sebelum anda menghidupkan perkakas.
- Jika makanan melekat pada dinding balang pencincang, matikan perkakas dan cabut plagnya. Kemudian gunakan spatula untuk mengeluarkan makanan tersebut dari dinding.

Penapis (HR2168/HR2167 sahaja)**Awas**

- Jangan sekali-kali menggunakan penapis untuk memproses bahan-bahan yang lebih panas daripada 80 C.
- Jangan sekali-kali menyaraskan penapis. Jangan isi penapis melebihi bahagian logamnya.
- Sentiasa pastikan tudung balang pengisar ditutup/dipasang dengan betul dan cawan penyukat dimasukkan dengan betul ke dalam tudung sebelum anda menghidupkan perkakas.
- Potong buah menjadi kepingan lebih kecil sebelum memasukkannya ke dalam penapis.
- Rendam bahan kering, seperti kacang soya, sebelum memasukkannya ke dalam penapis.

Medan Elektro Magnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berhubung dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan mematuhi arahan dalam manual pengguna ini, perkakas selamat untuk digunakan menurut bukti saintifik yang boleh didapati pada masa ini.

Kunci keselamatan binaan dalam

Ciri ini memastikan anda hanya boleh menghidupkan perkakas jika balang pengisar dan tudung, bikar pengisar atau mangkuk pencincang dan tudungnya (jenis tertentu sahaja) dipasang pada unit motor dengan betul. Jika balang pengisar dan tudung, bikar pengisar atau mangkuk pencincang dan tudungnya dipasang dengan betul, kunci keselamatan terbina dalam akan terbuka.

Pelindung litar motor

Perkakas dilengkapi dengan pelindung litar motor yang mematikan motor jika motornya tersangkul (yang mungkin berlaku semasa tugas pemprosesan yang berat atau jika perkakas tidak digunakan

mengikut arahan dalam manual pengguna). Jika ini berlaku, mula-mula matikan dahulu dan tanggalkan plag perkakas dan biarkan ia menyejuk kepada suhu bilik. Kemudian periksa sama ada kuantiti ramuan yang anda proses tidak melebihi kuantiti yang disebut di dalam manual pengguna atau jika sesuatu menghalang unit bilahnya.

Sebelum penggunaan pertama

Bersihkan dengan rapi semua bahagian yang bersentuhan dengan makanan sebelum anda menggunakan perkakas buat kali pertama (lihat bab 'Membersihkan').

Menggunakan perkakas

Pengisar

► **Pengisar dimaksudkan untuk:**

- Membacuh cecair; cth. hasil tenusu, sos, jus buah, sup, banchuan minuman, minuman kocak.
- Mencampur bahan-bahan lembut, contohnya adunan lempeng atau mayones.
- Memurikan bahan yang telah dimasak, contohnya, untuk menyediakan makanan bayi.

Menyediakan pengisar untuk digunakan

- 1** Skru unit pisau pengisar mengikut arah jam pada balang pengisar (Gamb. 2).
- 2** Lekapkan balang pengisar dengan unit pisau terpasang padanya pada unit motor dan putarkannya melawan arah jam sehingga ia terkunci pada tempatnya (Gamb. 3).

- 3** Letak bahan-bahan dalam balang pengisar.

Biar bahan yang panas menjadi sejuk sebelum memasukkannya ke dalam balang pengisar (suhu maks. 80°C/175°F).

- 4** HR2170 sahaja: ketatkan tudung pada balang dengan menekannya ke bawah (1) dan memutarnya mengikut arah jam (2). (Gamb. 4)

Nota: Pastikan saring pada tudung diletakkan di hadapan muncung balang agar dapat menuang cecair.

- 5** HR2168/HR2167/HR2161/HR2160 sahaja: tutup tudungnya.

- 6** Masukkan cawan penyukat ke dalam tudung (Gamb. 5).

Nota: Untuk membuka pengisar, ikut arahan di atas dalam susunan dan arah yang terbalik.

Menggunakan pengisar

Jangan sekali-kali masukkan jari anda atau sesuatu objek (contohnya spatula) semasa pengisar sedang berjalan.

Jangan melebihi paras maksimum yang ditunjukkan pada balang pengisar.

- 1** Masukkan plag utama ke dalam soket.

- 2** Hidupkan suis perkakas. (Gamb. 6)

Nota: Lihat jadual pengisar dhujung manual pengguna untuk kuantiti, seting kelajuan dan masa pemprosesan yang disarankan.

- Untuk memproses bahan pada kelajuan tertentu, putarkan tombol kawalan kepada seting kelajuan yang dikehendaki.

Jangan biarkan perkakas berjalan berterusan selama lebih daripada 2 minit. Biarkan perkakas menyejuk kepada suhu bilik sebelum anda meneruskan pemprosesan.

- Untuk memproses bahan untuk masa yang singkat, putar tombol kawalan ke seting denyut (P) beberapa kali.

Jangan guna seting denyut lebih daripada beberapa saat pada sesuatu masa.

- Untuk menghancurkan ais, tekan butan AIS.

3 Apabila anda telah selesai memproses, setkan tombol kawalan pada 0 dan cabut plag perkakas.

Sentiasa setkan tombol kawalan pada 0 sebelum anda membuka tudung.

Petua

- Untuk mencegah tumpahan, jangan masukkan lebih daripada 1.5 liter cecair ke dalam balang pengisar; lebih-lebih lagi apabila anda mengisar pada kelajuan tinggi. Jangan masukkan lebih daripada 1liter ke dalam balang pengisar apabila anda memproses cecair panas atau bahan yang mudah berbauh.
- Anda boleh menggunakan bukaan pada tudung untuk menambah bahan semasa perkakas sedang berjalan (Gamb. 7).
- Jangan proses bahan kering lebih daripada 1 minit.
- Potongkan bahan pepejal kepada bahagian-bahagian kecil sebelum memasukkannya ke dalam balang pengisar. Jangan proseskan kuantiti bahan pepejal yang banyak sekali gus. Sebaliknya, proseskan bahan ini dalam beberapa kelompok kecil.
- Jika anda tidak berpuas hati dengan hasilnya semasa anda mengisar bahan-bahan pejal, gunakan seting denyut beberapa kali untuk membolehkan pengisar berjalan sekejap. Jika anda hendak menggunakan spatula, matikan perkakas, buka tudung dan kemudian kacau bahan-bahannya. Anda boleh juga mengeluarkan sesetengah bahan-bahan balang dan proses jumlah yang lebih kecil.
- Untuk menghancurkan kiub ais, letakkan paling banyak 5 kiub ais di dalam balang pada satu-satu masa dan tekan butang ICE beberapa kali.

HR2170 sahaja: Balang dibuat daripada kaca, oleh itu ia boleh pecah. Jangan jatuhkan balang ke lantai yang keras. Juga elakkan kejutan suhu yang melampau. Jika balang terlalu sejuk, bilas betul-betul dengan air suam sebelum anda menuang cecair panas ke dalamnya. Jika balang kaca ini retak, berhenti menggunakanannya.

Penapis (HR2168/HR2167 sahaja)

Anda boleh menggunakan penapis untuk menghasilkan sos, jus buah segar atau koktel yang lebih halus kisarannya. Semua biji dan kulit buah akan tersangkut pada penapis.

HR2170/HR2160: Anda boleh memesan penapis (nombor jenis HR2963) daripada wakil penjual Philips anda.

Jangan isikan penapis melebihi bahagian logamnya.

Jangan gunakan penapis untuk memproses bahan yang panas.

Menyediakan penapis untuk penggunaan

1 Pasang balang pengisar pada unit motor (lihat bahagian ‘Menyediakan pengisar untuk digunakan’ dalam bab ini).

2 Masukkan penapis ke dalam balang pengisar (Gamb. 8).

Pastikan penapis diletakkan dengan betul pada bahagian bawah balang.

Alur pada penapis dan jejari dalam balang pengisar membantu anda meletakkan penapis pada kedudukannya yang betul.

3 Tutupkan tudung.

Menggunakan penapis

1 Masukkan bahan ke dalam penapis melalui bukaan pada tudung.

Potong buah-buahan kepada bahagian yang lebih kecil dan rendam kekacang yang kering, seperti kacang soya, sebelum anda memprosesnya di dalam penapis.

- 2** Tambah air atau cecair lain.
- 3** Masukkan cawan penyukat di dalam tudung, setkan tombol kawalan pada kelajuan yang tertinggi dan biarkan perkakas berjalan selama maksimum 40 saat.
- 4** Setkan tombol kawalan pada 0 dan keluarkan balang pengisar dari unit motor.
- 5** Tuangkan minuman keluar melalui muncung balang pengisar (Gamb. 9). Pastikan tudung ditutup dan cawan penyukat berada di dalam tudung. Ini akan menghalang isi buah dan kulit daripada termasuk ke dalam minuman anda.
- 6** Untuk hasil yang optimum, letak balang dengan bahan yang berbaki kembali pada perkakas, tanpa membuka/ mengeluarkan tudung. Kemudian biarkan perkakas berjalan selama beberapa saat lagi.
- 7** Tuangkan keluar minuman selebihnya.
- 8** Apabila anda telah selesai memproses, setkan tombol kawalan pada 0 dan cabut plag perkakas.

Petua

- Apabila anda mengisar kuantiti yang banyak, kami nasihatkan agar anda tidak memasukkan kesemua bahan ke dalam penapis sekaligus. Mula dengan mengisar kuantiti yang kecil dan biarkan perkakas berjalan selama beberapa saat. Kemudian matikan perkakas dan tambahkan lagi kuantiti kecil. Ulangi prosedur ini sehingga anda habis memproses semua bahan. Sentiasa pastikan balang pengisar sentiasa tertutup semasa pemprosesan.
- Untuk mendapatkan hasil yang terbaik apabila anda membuat jus dan koktel buah-buahan, tambah anggaran 300ml air kepada 150g buah. Anda juga boleh menggunakan cecair lain, contohnya untuk membuat koktel.
- Untuk membuat jus tomato, potong tomato menjadi empat bahagian dan masukkannya melalui bukaan pada tudung ke atas mata bilah yang berputar.

Pengisar kering (HR2168/HR2167/HR2161 sahaja)

Anda boleh menggunakan pengisar untuk mengisar dan mencincang bahan seperti lada biji, bijan, beras, gandum, isi kelapa, kacang (dibuang kulit), biji kopi, kacang soya kering, kacang pea kering, keju, serbuk roti, dll.

Sentiasa proseskan bunga cengkoh, bunga lawang dan jintan manis bersama-sama dengan bahan-bahan lain. Jika diproses berasingan, bahan-bahan ini mungkin meninggalkan kesan ke atas bahan-bahan plastik perkakas ini.

Pengisar kering ini tidak sesuai digunakan untuk mencincang ramuan yang sangat keras seperti buah pala dan kiub ais.

Jangan melebihi paras maksimum yang ditunjukkan pada balang pengisar.

Menyediakan pengisar untuk digunakan

- 1** Masukkan bahan kering ke dalam balang pengisar kering (Gamb. 10).
Nota: Lihat jadual pengisar di bahagian akhir manual pengguna untuk kuantiti dan masa pemprosesan yang disyorkan.
- 2** Ketatkan unit pisau pengisar mengikut arah jam pada balang pengisar (Gamb. 11).
- 3** Terbalikkan pengisar yang telah dipasang dan ketatkannya pengikut arah jam pada unit motor (Gamb. 12).

Menggunakan pengisar kering

1 Hidupkan suis perkakas.

Kami menasihati anda untuk menggunakan seting denyut atau seting kelajuan 5.

Jangan gunakan pengisar kering berjalan lebih daripada 30 saat tanpa gangguan.

2 Apabila anda telah selesai memproses, setkan tombol kawalan pada 0 dan cabut plag perkakas.

3 Untuk mengeluarkan pengisar dari unit motor, putarkan pengisar melawan arah jam.

Pencincang (HR2168 sahaja)

Anda boleh menggunakan pencincang untuk mencincang bahan seperti bawang, daging, herba, sayur-sayuran, buah-buahan, coklat, keju yang keras, makanan bayi dan kacang.

HR2170/HR2161/HR2160: Anda boleh memesan pencincang (nombor jenis HR2965) daripada wakil penjual Philips anda.

Jangan gunakan pencincang untuk mencampurkan cecair. Gunakan pengisar untuk tujuan ini.

1 Masukkan unit gandaan pencincang ke dalam bahagian bawah mangkuk pencincang (1). Putarkan unit gandaan melawan arah jam untuk menetapkannya (2) (Gamb. 13).

2 Letakkan mangkuk pencincang (1) pada unit motor dan putarkannya melawan arah jam untuk menetapkannya (2). (Gamb. 14)

3 Letakkan unit pisau pencincang ke dalam mangkuk pencincang (Gamb. 15).

4 Masukkan bahan-bahan ke dalam mangkuk pencincang (Gamb. 16).

Nota: Lihat jadual pengisar di bahagian akhir manual pengguna untuk kuantiti dan masa pemprosesan yang disyorkan.

Jangan melebihi kuantiti maksimum yang ditunjukkan dalam jadual.

Petua: Potong terlebih dahulu ketulan makanan ke dalam bahagian sebesar 1-2sm.

5 Letakkan tudung pada mangkuk pencincang (1) dan putarkannya mengikut arah jam untuk menetapkannya (2) (Gamb. 17).

Nota: Pastikan tudung dipasang dengan betul sebelum anda menghidupkan perkakas.

6 Hidupkan suis perkakas.

Nota: Jika perkakas bergoncang disebabkan makanan tidak teragih dengan sekata, letakkan tangan anda di atas tudung.

Nota: Pencincang menjalankan kerja dalam beberapa saat. Jangan biarkan ia berjalan lebih lama daripada beberapa saat.

7 Apabila anda telah selesai memproses, setkan tombol kawalan pada 0 dan cabut plag perkakas.

8 Putarkan mangkuk pencincang melawan arah jam (1) dan keluarkannya dari unit motor (2). (Gamb. 18)

9 Putarkan unit gandaan mengikut arah jam (1) dan keluarkannya dari bahagian bawah mangkuk pencincang (2) (Gamb. 19).

10 Keluarkan tudung dan unit pisau dari mangkuk pencincang.

Berhati-hati apabila anda mengendalikan unit mata pisau. Mata pemotongan unit pisau adalah tajam.

11 Kosongkan mangkuk pencincang.

Sentiasa keluarkan unit pisau dari mangkuk pencincang dan pencincang dari unit motor sebelum anda mengosongkan mangkuk pencincang.

Pembersihan (Gamb. 20)

Jangan sekali-kali menggunakan pad penyental, agen pembersih yang melelas atau cecair yang agresif seperti petrol atau aseton untuk membersihkan perkakas.

- 1 Matikan peralatan dan cabut plagnya.
- 2 Buka semua bahagian yang boleh ditanggalkan sebelum anda membersihkannya.
- 3 Bersihkan bahagian perkakas yang berbeza sebagaimana yang ditunjukkan dalam jadual pembersihan.

Petua:

- Perkakas dan bahagian-bahagiannya amat mudah dibersihkan sebaik saja ia selesai digunakan.
- Jika perlu, bersihkan jaringan penapis dengan berus yang sangat lembut.

Membersihkan balang pengisar dengan cepat

- 1 Isi pengisar separuh penuh dengan air suam dan tambah beberapa titik cecair pencuci pinggan mangkuk.
- 2 Putarkan tombol kawalan pada seting denyut beberapa kali.
- 3 Tanggalkan balang pengisar, kosongkannya dan bilas di bawah air paip.

Penyimpanan

- 1 Untuk menyimpan kord sesalur kuasa, tolak ke dalam petak penyimpanan kord pada tapak (Gamb. 21).
- 2 Simpan perkakas di tempat yang selamat dan kering.

Alam sekitar

- Jangan buang perkakas bersama sampah rumah biasa pada akhir hayatnya, tetapi bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan sedemikian anda akan membantu memelihara alam sekitar (Gamb. 22).

Jaminan dan servis

Jika anda memerlukan perkhidmatan atau maklumat atau jika anda mengalami masalah, sila kunjungi laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Penjagaan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh dapatkan nombor telefonnya di dalam risalah jaminan sedunia). Jika tiada Pusat Penjagaan Pelanggan di negara anda, hubungi wakil pengedar Philips tempatan.

Resepi

Untuk lebih banyak resipi, lawati laman web kami www.philips.com/kitchen.

Makanan bayi

Ramuan:

- 250g daging ayam telah dimasak
- 250g kentang telah dimasak
- 250g kacang hijau yang telah dimasak
- 450ml susu

- 1 Pasangkan balang pengisar ke unit motor (lihat bahagian 'Menggunakan perkakas').

- 2** Potong dahulu bahan-bahan menjadi bahagian sekecil 2x2x2cm.
- 3** Letak bahan-bahan dalam balang pengisar.
- 4** Adun bahan-bahan selama 25 saat (atau lebih lama untuk hasil yang lebih halus).

Nota: jika anda hendak menyediakan kuantiti yang lebih banyak, biarkan perkakas menyejuk ke suhu bilik sebelum anda memproses kelompok bahan-bahan yang seterusnya.

Susu soya

Ramuan:

- 180g kacang soya (direndam)
- 500ml air suam

- 1** Rendam kacang soya di dalam air bersih selama sekurang-kurangnya 4 jam sehingga lembut.
- 2** Proses kacang soya yang direndam dengan 500ml air suam di dalam pengisar selama sekurang-kurangnya 60 saat sehingga anda memperoleh cecair yang tidak berbintil.

Nota: jika anda hendak menyediakan kuantiti yang lebih banyak, biarkan perkakas menyejuk ke suhu bilik sebelum anda memproses kelompok bahan-bahan yang seterusnya.

Serbuk Panca Rempah

Ramuan:

- 2g jintan manis
- 2g bunga lawang
- 2g kayu manis Cina
- 2g bunga cengkih
- 2g likuoris Cina

- 1** Masukkan semua bahan ke dalam bikar pengisar.
- 2** Kisar bahan selama 30 saat.

Nota: jika anda hendak menyediakan kuantiti yang lebih banyak, biarkan perkakas menyejuk ke suhu bilik sebelum anda memproses kelompok bahan-bahan yang seterusnya.

Massaman Thai

Ramuan:

- 20g bawang merah
- 15g bawang putih
- 7g lengkuas
- 9g serai
- 2 bunga cengkih
- 1 sudu besar biji ketumbar
- 1 sudu besar biji jintan putih
- 3 cili kering
- 5 lada biji
- 1 sudu besar belacan
- 1 sudu besar garam

- 1** Potong lengkuas menjadi kepingan anggaran 1sm.
- 2** Masukkan semua bahan ke dalam bikar pengisar.
- 3** Kisar bahan selama 30 saat.

Nota: jika anda hendak menyediakan kuantiti yang lebih banyak, biarkan perkakas menyejuk ke suhu bilik sebelum anda memproses kelompok bahan-bahan yang seterusnya.

Pes cili

Ramuan:

- 20g cili merah
- 30g bawang merah
- 2 ulas bawang putih

- 1** Potong cili dan bawang putih menjadi kepingan besar yang muat di dalam mangkuk pencincang.
- 2** Masukkan cili, bawang merah dan bawang putih ke dalam mangkuk pencincang.
- 3** Cincang bahan-bahan selama 30 saat.

Nota: Jika anda hendak menyediakan kuantiti yang lebih banyak, biarkan perkakas menyejuk ke suhu bilik sebelum anda memproses kelompok bahan-bahan yang seterusnya.

Soalan lazim

Jika perkakas tidak berfungsi atau tidak berfungsi dengan betul, periksa dahulu senarai semak di bawah atau lawati laman web Philips di www.philips.com/welcome. Jika masalah berkenaan tidak disebutkan dalam senarai ini atau di internet, perkakas barangkali mempunyai kecacatan. Dalam keadaan ini, kami nasihatkan anda supaya membawa perkakas ke wakil pengedar anda atau ke pusat servis Philips yang sah.

Soalan	Jawapan
Mengapakah perkakas tidak berfungsi?	Perkakas ini dilengkapi sistem keselamatan. Perkakas ini tidak berfungsi jika balang pengisar dan tudung, mangkuk pencincang dan tudung (jenis tertentu sahaja) atau bikar pengisar (jenis tertentu sahaja) tidak dipasang dengan betul pada unit motor atau tidak dipasang langsung. Periksa sama ada anda telah memasang balang pengisar dan tudung, mangkuk pencincang dan tudung atau bikar pengisar dengan betul (lihat berbagai bahagian dalam manual pengguna ini). Tetapkan tombol kawalan kepada 0 terlebih dahulu.
Bolehkah saya bersihkan semua bahagian boleh cerai di dalam mesin pencuci pinggan mangkuk?	Ya, kecuali unit motor dan unit gandingan pada pencincang (jenis tertentu sahaja).
Apakah maksud 'denyut'?	Apabila anda menekan tombol kawalan pada seting denyut, perkakas berjalan pada kelajuan yang tertinggi selagi anda mengekalkan tombol pada kedudukan ini. Gunakan seting denyut jika anda inginkan lebih kawalan ke atas tugas pemprosesan.
Bolehkah saya menuangkan bahan-bahan panas ke dalam balang pengisar?	Tidak, biarkan cecair panas menjadi sejuk sehingga 80°C/175°F untuk mengelakkan kerosakan pada balang.
Mengapakah motor mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan semasa pemprosesan?	Adalah menjadi perkara biasa bagi perkakas baru untuk mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan atau mengeluarkan sedikit asap beberapa kali pertama ia digunakan. Fenomena ini berhenti selepas anda menggunakan perkakas ini beberapa kali. Perkakas ini juga mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan atau mengeluarkan sedikit asap jika ia telah digunakan terlalu lama. Dalam kes ini, setkan tombol kawalan pada 0 dan biarkan perkakas menjadi sejuk selama 60 minit.
Perkakas berhenti berjalan kerana unit pisau tersangkut. Apa harus saya lakukan?	Setkan tombol kawalan pada 0 dan guna spatula untuk mengeluarkan bahan yang menghalang unit pisau. Kami juga menasihati anda untuk memproses kuantiti yang lebih kecil.
Mengapakah jus buah atau susu kacang soya mengandungi banyak pulpa atau kulit?	Untuk mengelakkan isi buah dan kulit daripada termasuk ke dalam minuman anda, pastikan penapis (jenis tertentu sahaja) diletakkan dengan betul ke dalam balang, tudung ditutup dan cawan penyukat dimasukkan ke dalam tudung.
Balang pengisar bocor. Apa harus saya lakukan?	Setkan tombol kawalan pada 0 dan tuang bahan keluar. Pastikan gegelang kedap diletak dengan betul pada unit pisau. Juga pastikan unit pisau dipasang dengan betul.

บทนำ

ขอแสดงความยินดีที่ได้เลือกซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงท่าเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตต่อเนื่องที่สำคัญที่สุด เช่น การเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี หรือการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงคำแนะนำด้านความปลอดภัย ที่สำคัญที่สุด ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ทุกวัน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ศูนย์บริการ หรือจ่ายเงินเพิ่ม

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

- 1 แท่นเมอเตอร์แบบมีปุ่มควบคุมการทำงาน
- 2 ปุ่ม Pulse
- 3 การตั้งระดับความเร็ว
- 4 ปุ่มกดน้ำแข็ง
- 5 ชุดใบมีดโดยสำหรับพลาสติก
- 6 โน๊บบินพลัตติก (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)
- 7 ชุดแสดงระดับ
- 8 ฝาปิดโดยสำหรับพลาสติก
- 9 ช่องติ่มบนฝาปิด
- 10 ถ้วยตรง
- 11 ที่กรอง (เฉพาะรุ่น HR2168/HR2167)
- 12 ชุดใบมีดโดยสำหรับ
- 13 โน๊บบินกราฟ (เฉพาะรุ่น HR2170)
- 14 ชุดแสดงระดับ
- 15 ฝาปิดโดยสำหรับ
- 16 ช่องติ่มบนฝาปิด
- 17 ถ้วยตรง
- 18 ชุดอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อ (Coupling unit)
- 19 โน๊บลับ (เฉพาะรุ่น HR2168)
- 20 ชุดใบมีดโดยลับ
- 21 ฝาปิดโดยลับ
- 22 ชุดใบมีดของโน๊บล
- 23 โน๊บด (เฉพาะรุ่น HR2168/HR2167/HR2161)

ข้อควรจำ

ควรอ่อนโยนเมื่อถอดหัวร้อนและเป็นไฟฟ้าเพื่อใช้งานอีกในครั้งต่อไป

ท้าไป

อันตราย

ไม่ควรนำแท่นเมอเตอร์เข้าสู่น้ำหรืออาบน้ำหรือไว้ในสุขา แต่ไม่ควรนำไปล้างด้วยน้ำประปา ควรใช้ผ้ากันน้ำบีบพอกมาด้วยความระดูดแลเท่านั้น

คำเตือน

- ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบเรตติ้งไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทที่ลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากที่ลิปส์ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตที่ลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติจากเกิดขึ้นได้
- ห้ามใช้งาน หากเกิดไฟ สายไฟ หรืออื้นส่วนอื่นๆ ข้ารุดเสียหาย
- ห้ามใช้ไฟฟ้า โน๊บ (เฉพาะรุ่นท่านี้) หรือโน๊บลับ (เฉพาะรุ่นท่านี้) ในการเปิดและปิดเครื่อง
- ไม่ควรปล่อยให้หัวของแท่นโดยเด็ดขาด ไม่มีการควบคุมดูแล
- ไม่ควรใช้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพทางกายภาพซึ่งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน เนื่องแต่จะอ่อนไหวต่อการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยสูญเสียผลิตภัณฑ์ไป
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไฟได้กินผลิตภัณฑ์ไปเล่น
- หลีกเลี่ยงการจมหัวลักษ์ในน้ำ เมื่อโดยเด็ดขาด ไม่ได้โดยเด็ดขาด ไม่ได้โดยเด็ดขาด

ข้อควรระวัง

- ลดคลักไฟฟ้าหากครั้ง ก่อนประโคนครั้งต่อไป ลดอุปกรณ์ หรือปรับเปลี่ยนอื้นส่วนอื่นๆ
- ห้ามใช้อุปกรณ์เหล่านี้ หรืออื้นส่วนที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น หรือบริษัทที่ลิปส์ไม่ได้แนะนำ การรับประทานจะเป็นโมฆะหันที่ หากคุณใช้อุปกรณ์เหล่านี้ หรืออื้นส่วนต่างๆ ล้วน

48 ภาษาไทย

- ห้ามใส่ส่วนผสมกินเข็มแสดงระดับสูงสุดบนโน๊อปเป่น, โกลบด (เฉพาะบางรุ่นท่าน้ำ) และโน๊อบลัป (เฉพาะบางรุ่นท่าน้ำ)
- ห้ามป่นส่วนผสมในปริมาณเพิ่มมากกว่าปริมาณสูงสุดที่กำหนดและให้เวลาเก็บกันที่รอมอเตอร์
- เตรียมจะปิดลิฟท์หากมีการประจุไฟบาน, โกลบด, (เฉพาะบางรุ่นท่าน้ำ) หรือโน๊อบลัป (เฉพาะบางรุ่นท่าน้ำ) เข้ากับแท่นมอเตอร์อย่างถูกต้องแล้วท่าน้ำ

เครื่องปั๊มน้ำแบบประสงค์

คำเตือน

- ห้ามใช้น้ำบริสุทธิ์โดยเด็ดขาด แม้กระทั่งในโน๊อบลัป ขณะที่เครื่องปั๊มน้ำกำลังทำงาน
- ตรวจสอบวัสดุในไดซ์ตั้งของไนเม็คเด็กานโน๊อบลัปไม่含有หนาดีแล้ว ก่อนประจุกับโน๊อบลัปให้แน่ชัดกันแท่นมอเตอร์
- อย่าลักษณะสุกๆ ในการใช้เครื่องปั๊มน้ำให้ความสะอาด เนื่องจากในเม็ดฝุ่นความชื้นมาก คุณอาจถูกมีดบาดมือได้ง่าย
- หากมีไนเม็ดเกิดติดหัว ควรถอนบล็อกไฟฟ้าออกก่อนเชื่อมต่อหัวกับเครื่องที่ติดไนเม็ดออก

ข้อควรระวัง

- ห้ามใส่ส่วนผสมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 80°C ลงในโน๊อบลัป
- เก็บปั๊มน้ำจากการติดตั้งในไดซ์ตั้งของไนเม็คเด็กานโน๊อบลัปให้แน่ชัดกันไว้ 1.5 ลิตร โดยเฉพาะเมื่อทำการบ้านด้วยความเร็วสูง ในการนี้ที่ส่วนผสมมีลักษณะเหลืองและร้อนหรือเป็นเหลว ไม่ควรใส่ส่วนผสมลงในไดซ์ตั้งของไนเม็คเด็กานไว้ 1 ลิตร
- หากมีความพยายามติดต่อหัวต่อในโน๊อบลัป ให้ปิดลิฟท์ที่เครื่อง และดึงเด็กอกออก แล้วใช้พายากาวาเดชอาจหาหารอกรอก
- ทุกครั้งก่อนดึงลิฟท์ที่เครื่อง โปรดตรวจสอบว่าไนเม็คเด็กานโน๊อบลัปไม่ใช้ร้อนมาก จึงสามารถเดคก์ได้ ถังน้ำ ห้ามห้ามปั๊มน้ำลงในเดคก์แล้ว
- เฉพาะรุ่น HR2170 ห้ามน้ำ เนื่องจากไนเม็คเด็กานโน๊อบลัปที่หัวต่อไม่สามารถหัวต่อหัวกับไฟรีเซนเซอร์ได้ รวมทั้งไฟลีนิ่งความร้อนสูง หากโน๊อบลัปยังคงทำงานได้สูงต่อเนื่องก่อนที่จะเทลงเหลวที่ร้อนลงไป ห้ามไนเม็คเด็กานให้หยุดใช้งานโน๊อบลัป

โกลบด (เฉพาะรุ่น HR2168/HR2167/HR2161)

คำเตือน

- ตรวจสอบวัสดุในไดซ์ตั้งของไนเม็คเด็กานโน๊อบลัปโดยดูอย่างหนาดีแล้ว ก่อนประจุกับโน๊อบลัป
- อย่าลักษณะสุกๆ ในการใช้โน๊อบลัปให้ความสะอาด เนื่องจากในเม็ดฝุ่นความชื้นมาก คุณอาจถูกมีดบาดมือได้ง่าย
- ห้ามใช้โน๊อบลัปส่วนผสมที่ใช้รีเซนเซอร์ เช่น จันทร์ฟ์ทัด และน้ำแข็งก้อน

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้โน๊อบลัปนานกินกว่า 30 วินาทีก็ติดต่อหัวต่อไนเม็คเด็กาน ควรปล่อยไนเม็คเด็กานลงจนเย็นอุณหภูมิห้อง หลังจากปั๊มน้ำแล้วจึงต่อต่อต่อหัวต่อ
- ควรบ้านส่วนผสมสำหรับการทำงานอุ่น ยิ่งร้อน เมื่อเดคก์ที่หัวต่อหัวกับไฟรีเซนเซอร์ ไนเม็คเด็กานจะร้อนมาก
- ควรดูความเรียบเรียงไนเม็คเด็กานให้แน่ชัด ก่อนใช้ไนเม็คเด็กานลงบนเดคก์
- ไม่ควรใช้โน๊อบลัปน้ำแข็งก้อน ควรใช้ไนเม็คเด็กานลงบนเดคก์
- ห้ามใช้ไนเม็คเด็กานลงบนส่วนผสมที่เป็นเหลว เช่น น้ำผลไม้ เป็นอันขาด

โน๊อบลัป (เฉพาะรุ่น HR2168)

คำเตือน

- ตรวจสอบวัสดุในไดซ์ตั้งของไนเม็คเด็กานให้แน่ชัดกันไว้ ไนเม็คเด็กานโดยดูอย่างหนาดีแล้ว ก่อนประจุกับโน๊อบลัป
- อย่าลักษณะสุกๆ ในการใช้โน๊อบลัปให้ความสะอาด เนื่องจากในเม็ดฝุ่นความชื้นมาก คุณอาจถูกมีดบาดมือได้ง่าย
- ห้ามใช้น้ำบริสุทธิ์โดยเด็ดขาด แม้กระทั่งในโน๊อบลัป ขณะที่เครื่องปั๊มน้ำกำลังทำงาน
- หากมีไนเม็ดเกิดติดหัว ควรถอนบล็อกไฟฟ้าออกก่อนเชื่อมต่อหัวกับเครื่องที่ติดไนเม็ดออก

ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบวัสดุในไดซ์ตั้งของไนเม็คเด็กานให้แน่ชัดกันไว้ ไนเม็คเด็กานโดยดูอย่างหนาดีแล้ว ก่อนที่จะนำไปใช้
- หากมีความพยายามติดต่อหัวต่อในโน๊อบลัป ให้ปิดลิฟท์ที่เครื่อง และดึงเด็กอกออก แล้วใช้พายากาวาเดชอาจหาหารอกรอก

ที่กรอง (เฉพาะรุ่น HR2168/HR2167)

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ไนเม็คเด็กานกับส่วนผสมที่ร้อนกิน 80°C
- ไม่ควรใส่ส่วนผสมลงในไนเม็คเด็กานโดยดูอย่างหนาดีแล้ว ก่อนประจุกับโน๊อบลัป
- ทุกครั้งก่อนดึงลิฟท์ที่เครื่อง โปรดตรวจสอบว่าไนเม็คเด็กานโน๊อบลัปไม่ร้อนแล้ว ถังน้ำ หัวต่อหัวกับไฟรีเซนเซอร์แล้ว
- หันหลังไม่ใช้ปั๊มน้ำแข็งก้อน ก่อนหัวไนเม็คเด็กานลงในกรอง
- ควรเปลี่ยนส่วนผสม เช่น น้ำแข็งลงในน้ำหัวก่อนใส่ลงในไนเม็คเด็กาน

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของที่ลิฟท์สไลด์ไม่สามารถด้านหลังไม่เหล็กให้พื้นที่ (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและลดคลื่นกับค่าแนะนำในที่สูงสุด คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องย่างปลดด้วยความต้องสูญนำทางวิทยาศาสตร์ในปั๊มน้ำบัน

ระบบลือคณิรภัยชี้งัดดังในเครื่อง

คุณสมบัตินี้ทำให้คุณสามารถเดสก์ท็อปที่ได้เฉพาะมือเป็นและไฟเบอร์ โนบด หรืออินเตอร์เน็ตและไฟเบอร์ (เฉพาะบางรุ่นที่กัน) เข้ากันได้เมื่อต่อเข้ากันที่แล้วท่าน หากประคบไฟเบอร์และไฟเบอร์ โนบด หรืออินเตอร์เน็ตและไฟเบอร์ได้ถูกต้อง เครื่องจะปลดล็อกระบบลือคณิรภัยของ

ระบบป้องกันวงจรเมมเบอร์

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้มีระบบป้องกันวงจรเมมเบอร์ซึ่งจะปิดล็อกเมื่อต่อวงจรเมมเบอร์ติดตั้ง (เช่นจอยเก็บข้อมูลไว้ใช้งานอย่างหนัก หรือหากไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ตามกำหนดเวลา ในกรณีที่หัวต่อที่เครื่องและออกบล็อกเครื่องจากนั้นแล้วโดยไฟเครื่องยืนยันที่กันอุณหภูมิท้อง งานนั้นตรวจสอบว่าไม่มีส่วนผิดปกติที่กำลังปั่นน้อกกว่าปริมาณที่กำหนดในเมื่อที่ไฟเครื่องไม่ได้ทำงานต่อไปเมื่อไฟเครื่องไม่ได้ทำงาน)

ก่อนใช้งานครั้งแรก

ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่สัมผัสน้ำหนัก ก่อนใช้งานครั้งแรก (ดูได้จากทักษะการทำความสะอาด)

การใช้งาน

เครื่องปั่นน้อกประสงค์

▶ เครื่องปั่นน้อกเพื่อ :

- ผลขบวนเหลวต่างๆ ให้เข้ากัน เช่น นม, ซอส, น้ำผลไม้, ฯลฯ เครื่องต้มหรือไข่
- คลุกเคล็ดล่วงผลไม้ก่อนนำไปใช้เข้ากัน เช่น แป้งทามะแพดด์ หรือมายองเนส
- บดเคล้าส่วนผสมที่ปูรุ่งสุกแล้ว เช่น อาหารล้างรับประทาน

การเตรียมเครื่องปั่นเพื่อใช้งาน

1 หมุนบุดเปิดฝาลงเครื่องปั่นข้างบนโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา (รูปที่ 2)

2 ติดตั้งโถปั่นที่ประคบชุดในมีดแล้วเข้ากับแท่นเมมเบอร์ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกระหั่นล็อกเข้าที่ (รูปที่ 3)

3 ใส่ส่วนผสมในโถปั่น

ควรปั่นอยู่ที่อุณหภูมิที่ความเย็นและก่อนที่จะได้ลงในโถปั่น (อุณหภูมิสูงสุด 80°C/175°F)

4 เจาะรุ่น HR2170 เท่านั้น: ปิดฝาปิดลงโดยปั่นให้แน่น โดยการคลก (1) และหมุนไปตามเข็มนาฬิกา (2) (รูปที่ 4)

หมายเหตุ: ควรอุทิ้งเท่านี้ไว้ตามแรงในฝาปิดอยู่ที่ด้านหน้าของปากโถปั่น เพื่อให้สามารถเหยื่อของเหลวออกมากได้

5 เจาะรุ่น HR2168/HR2167/HR2161/HR2160 เท่านั้น: ปิดฝาปิด

6 ประคบกลับด้วยเข้ากับฝาปิด (รูปที่ 5)

หมายเหตุ: ในกรณีของประคบเครื่องปั่น ให้ดำเนินการตามคำแนะนำข้างต้นโดยทำการล้ำดับและทิศทางย้อนกลับ

การใช้งานเครื่องปั่น

ห้ามหยิบหัวหรือตัดดูอ่อนๆ (เช่น ไม้พาย) ลงในโถปั่นขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

ห้ามใส่ส่วนผสมเกินกว่าปั๊ดแสดงระดับสูงสุดที่กำหนดไว้บนโถปั่น

1 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเข้ารับบนแผง

2 เปิดสวิตช์เครื่อง (รูปที่ 6)

หมายเหตุ: โปรดดูรีวิวน้ำ ภารต์ต่อความเร็ว และระยะเวลาการปั่นที่แนะนำ ได้ในตารางสำหรับเครื่องปั่นที่ส่วนท้ายของคู่มือเล่มนี้

- ในการปั่นส่วนผสมที่ความเร็วระดับต่ำๆ ให้หมุนบุ่มน้ำคุณการทำงานไปตามระดับความเร็วที่ต้องการ

ห้ามปั่นส่วนผสมมากเกิน 2 นาทีแต่ละครั้งที่ใช้งาน หรือเครื่องยืนยันเมื่อต้องก่อน จึงเริ่มใช้งานต่อ

- หากต้องการปั่นส่วนผสมเป็นเวลาสั้นๆ ให้หมุนบุ่มน้ำคุณการทำงานไปที่ปุ่ม Pulse (P) ได้โดยตามต้องการ

ห้ามใช้ปุ่ม Pulse นานกว่า 2-3 วินาทีต่อครั้ง

- ในการบันดาลซึ่งให้ก่อตั้ง ICE

3 เมื่อเสร็จการทำงานแล้ว ให้หมุนบุ่มน้ำคุณการทำงานไปที่ 0 และกดปุ่มไฟออก

หมุนบุ่มน้ำคุณการทำงานไปที่ 0 อยู่เสมอ ก่อนที่จะเปิดไฟปิด

50 ภาษาไทย

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- เพื่อป้องกันการกดต้น ไม่ควรใช้ส่วนผสมที่เป็นของเหลว ลงในโถปั๊กเกินกว่า 1.5 ลิตร โดยเฉพาะเมื่อกำกับปั๊กเกินกว่า 1 ลิตร
- คุณสามารถใช้ช้อนติมบนไฟตัดฟ้าต้มส่วนผสม ขนาดที่เครื่องกำกังทำงานอยู่ได้ (รูปที่ 7)
- ห้ามปั๊บส่วนผสมแห้งบนไฟ 1 นาที
- ห้ามส่วนผสมที่มีน้ำแข็งเป็นหิ่นเล็กๆ ก่อนใส่ลงในโถปั๊บ ไม่ควรปั๊บส่วนผสมที่มีน้ำแข็งในปริมาณมากพ้ออยู่กัน ควรแบ่งปั๊บส่วนผสมที่เหลือๆ
- หากในส่วนที่ไม่พอใจใช้ผลลัพธ์ได้เนื่องจากส่วนผสมที่แข็ง ให้ใช้การหักหัวแบบ pulse สองครั้งส่วนที่แข็งให้เครื่องปั๊บหักหัวในจังหวะสั้นๆ หากคุณต้องการใช้ผู้ช่วย ให้ปั๊บส่วนที่แข็ง เปิดไฟ แล้ววนส่วนผสม น้ำจากหัวคุ้นหังสามารถทำส่วนผสมมาส่วนอกจากโถแล้วปั๊บส่วนผสมในไวร์กานน้อยลงได้อีกด้วย
- ในการต้นน้ำแข็ง ให้เลี้ยงน้ำแข็งในโถครึ่งหนึ่ง เก็บ 5 ก้อน และตักบุ่ม ICE ประมาณ 2-3 ครั้ง

เฉพาะรุ่น HR2170 เท่านั้น: เมื่อจ่ายโภคบันทึกสำหรับการปั๊บส่วนผสมที่มีความร้อนสูง หากโภคบันทึกมา ให้ล้างโภคบันทึกน้ำอุ่นก่อนที่จะเทของเหลวที่ร้อนลงไป หากโภคบันทึกร้าว ให้หยุดใช้งานโดยด่วน

ที่กรอง (เฉพาะรุ่น HR2168/HR2167)

คุณสามารถใช้แผ่นกรองเพื่อทำกานา妖ส์ น้ำผลไม้สด หรือต้มเกลือน้ำอalteยีดพีดีไซ ส่วนแมสต์และกาแฟ ไม่ใช่ถูกก้าวไฟในแผ่นกรอง
HR2170/HR2160: คุณสามารถซื้อชิ้นเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 3 เดือน (หมายเลขรุ่น คือ HR2963) ได้จากศูนย์บริการ Philips

ห้ามใช้ส่วนผสมในแผ่นกรองสูงเกินกว่าส่วนที่เป็นโภคบันทึก

ห้ามใช้แผ่นกรองในการปั๊บส่วนผสมที่มีความร้อน

การเตรียมแผ่นกรองเพื่อใช้งาน

1 ติดตั้งโถปั๊บเข้ากับแท่นมอเตอร์ (ดูที่หัวขอ 'การเตรียมเครื่องปั๊บเพื่อใช้งาน' ในบทนี้)

2 ใส่แผ่นกรองลงในโถปั๊บ (รูปที่ 8)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นกรองที่ติดตั้งลงในโถปั๊บอย่างถูกต้องแล้ว

ร่องของแผ่นกรองและขอบด้านในของโถปั๊บจะช่วยให้ได้แผ่นกรองในตำแหน่งที่ถูกต้อง

3 ปิดฝา

การใช้แผ่นกรอง

1 ใส่ส่วนผสมลงในแผ่นกรองโดยหันหางานเข้าสู่เติมบนฝาปิด

หันฝาปิดเป็นหัวเข้ากับหัวที่จะใส่ลงในโถปั๊บ

2 เดินน้ำรีของเหลวอ่อนๆ

3 ประกอบถ้วยด้วยเข้ากับฝาปิด หมุนบุ่มน้ำดูมการทำงานที่ปั๊บความเร็วสูงสุด แล้วปล่อยให้เครื่องทำงานต่อไปไม่เกิน 40 วินาที

4 หมุนบุ่มน้ำดูมการทำงานที่ปั๊บ 0 และนำโถปั๊บออกจากแท่นมอเตอร์

5 เทเครื่องดื่มออกห้องปากของโถปั๊บ (รูปที่ 9)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิด และประกอบถ้วยด้วยเข้ากับฝาปิดแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้สีกาแฟและเปลือกไข่แตกหัก

6 เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ละเอียด ให้ใส่โถปั๊บที่มีส่วนผสมเหลืออยู่กลับเข้าไปที่เครื่อง โดยไม่ต้องเปิด/ถอดฝาปิดออก จากนั้นปั๊บต่อไปอีกประมาณ 2-3 วินาที

7 เทเครื่องดื่มที่เหลือทิ้งหมดออก

8 เมื่อเสร็จการทำงานแล้ว ให้หมุนบุ่มน้ำดูมการทำงานที่ปั๊บ 0 และถอดฝาปิดไฟออก

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- เมื่อต้องการปั๊บส่วนผสมในไวร์กาน ไม่ควรใช้ส่วนผสมที่แข็ง หักหัวในร่องโดย ควรปั๊บส่วนผสมที่ละเอียดและปั๊บไฟครั้งละ 2-3 วินาที เท่านั้น จากนั้นปิดฝาปิดที่เครื่องดื่มที่เหลือทิ้งไว้ในนิด หักหัวจนกระทั่งปั๊บส่วนผสมครั้งที่สอง หันฝาปิดเครื่องดื่มที่ปิดฝาปิดเป็นทุกครั้ง
- เครื่องดื่มที่น้ำผลไม้และตีก้อนไฟฟ้าต้องมีน้ำ 300 มล. ลิสต์ตัวบล็อกไฟ 150 กรัม คุณยังสามารถใช้ช้อนของเหลวประภาก่อนอื่นๆ เพื่อทำให้ตีก้อนไฟฟ้าได้
- การทำงานจะเสื่อมความแรง ควรหั่นมะเขือเทศ หัวหอม หัวใหญ่เป็น 4 ช่วง แล้วใส่ลงในโถปั๊บโดยหันหางานเข้าสู่เติมบนฝาปิด

โภคบันทึก (เฉพาะรุ่น HR2168/HR2167/HR2161)

คุณสามารถใช้โภคบันทึกในการบดหรือลับส่วนผสมต่างๆ เช่น เม็ดพุงไทย, เม็ดจา, ข้าว, ข้าวสาลี, เนื้อมะพร้าว, ถั่ว (หั่นเบล็อก), เมล็ดกาแฟ, ถั่วเหลือง, ถั่วเมล็ดเลือกอ่อนๆ, ชีส, เศษขนมปัง, ฯลฯ

ควรปั่นส่วนผสมจำพวกกานพสูตร ยิ่หร่า เมล็ดพีช พร้อมกับส่วนผสมอื่น หากปั่นแยก ส่วนผสมเหล่านี้อาจทำให้รัศต์เป็นพลาสติกของเครื่องข้ารุคเดียวยาโภคไม่เหมาะสมที่จะใช้บดด้วยกัน จันทน์เทศ และน้ำแข็งก้อน

ห้ามใช้ส่วนผสมเกินกว่าปั่นและระดับสูงสุดที่กำหนดไว้ในโภค

การเตรียมโภคเพื่อใช้งาน

1 ใส่ส่วนผสมลงในโภค (รูปที่ 10)

หมายเหตุ: โปรดดูปริมาณ และระยะเวลาการบดที่แนะนำ ได้ในตารางสำหรับโภคที่ส่วนหักของครึ่งเมื่อเล่นน้ำ

2 หมุนชุดใบมีดคงที่เข้ากับโภค โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา (รูปที่ 11)

3 คลายโภคที่ประยอกน้ำด้วยมีดแล้วลบบันแท่นมอเตอร์ โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไป (รูปที่ 12)

การใช้โภค

1 เปิดสวิตช์เครื่อง

ขอแนะนำให้ใช้ปุ่ม Pulse หรือใช้ความเร็วระดับ 5

ห้ามใช้โภคนานเกินกว่า 30 วินาทีติดต่อกันโดยไม่หยุดพัก

2 เมื่อเสร็จการทำงานแล้ว ให้หมุนปุ่มควบคุมการทำงานไปที่ 0 และ松ดปลั๊กไฟออก

3 ในการลอกโภคออกจากแท่นมอเตอร์ ให้หมุนโภคในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

โภคลับ (เฉพาะรุ่น HR2168)

คุณสามารถใช้ที่บดลับในการบดส่วนผสมต่างๆ เช่น หัวหอม, เนื้อ, สมุนไพร, ผัก, ผลไม้, ซีอิ๊วโนเกลต, เมเยอร์, อาหารสำหรับรายการ และผู้ช่วยต่างๆ ได้ HR2170/HR2111/HR2160: คุณสามารถถังที่บดลับ (หัวใจสุรุ่น หรือ HR2965) ที่จากตัวแทนจำหน่าย Philips

ห้ามใช้ที่บดลับในการผสมของเหลว ให้ใช้เครื่องปั่นแทน

1 ประกอบชุดอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อของที่บดลับเข้ากับด้านล่างของโภคลับ (1) หมุนชุดอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนเข้าที่ (2) (รูปที่ 13)

2 วางโภคลับ (1) ลงบนแท่นมอเตอร์ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนเข้าที่ (2) (รูปที่ 14)

3 ประกอบชุดใบมีดที่บดลับเข้ากับโภคลับ (รูปที่ 15)

4 ใส่ส่วนผสมลงในโภคลับ (รูปที่ 16)

หมายเหตุ: โปรดดูปริมาณ และระยะเวลาการบดลับที่แนะนำ ได้ในตารางสำหรับโภคลับที่ส่วนหักของครึ่งเมื่อเล่นน้ำ

ห้ามใช้ส่วนผสมเกินปริมาณสูงสุดที่ระบุไว้ในตาราง

เคล็ดลับ: ควรหันอาหารขึ้นไปยื่นออกเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1-2 ชิ้น.

5 ปิดฝาปิดบนโภคลับ (1) แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนเข้าที่ (2) (รูปที่ 17)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดเข้ากับดีแล้ว ก่อนที่จะเบิดเครื่อง

6 เปิดสวิตช์เครื่อง

หมายเหตุ: หากเครื่องอยู่ในสภาวะเพาะส่วนผสมไม่กระหายตัว ให้วางมือลงบนฝาปิด

หมายเหตุ: ที่บดลับจะทำงานประมาณ 2-3 วินาที ห้ามปั่นนานเกิน 2-3 วินาที

7 เมื่อเสร็จการทำงานแล้ว ให้หมุนปุ่มควบคุมการทำงานไปที่ 0 และ松ดปลั๊กไฟออก

8 หมุนโภคลับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (1) แล้วถอดออกจากแท่นล่างของโภคลับ (2) (รูปที่ 18)

9 หมุนชุดอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อตามเข็มนาฬิกา (1) แล้วถอดออกจากด้านล่างของโภคลับ (2) (รูปที่ 19)

10 ถอดฝาปิดและชุดใบมีดออกจากโภคลับ

52 ภาษาไทย

โปรดระมัดระวังขณะเขียนอักษรไปมือ เนื่องจากด้านบนของชุดไปมือตันคมมาก

11 เทอาหารออกจากโกลด์สัม

ควรอ่านชุดไปมือออกจากโกลด์สัมและถอดทับลับออกจากแท่นเมเตอร์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเทอาหารออกจากโกลด์สัม

การท่าความสะอาด (รูปที่ 20)

ห้ามใช้ผ้าแห้ง อุปกรณ์ที่มีความคม หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น น้ำมัน หรืออะซีโตนในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เป็นอันขาด

- 1 บิดสวิตซ์และถอดปลั๊กเครื่อง
 - 2 ควรถอดขันล่วนที่ก่อต่อประกอบไได้ทั้งหมดออกก่อนที่จะทำความสะอาดทุกครั้ง
 - 3 ทำความสะอาดล่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องตามที่ระบุไว้ในตารางการทำความสะอาดด้านล่าง
- ข้อแนะนำเพิ่มเติม:
- การทำความสะอาดตัวเครื่องและขันล่วนต่างๆ จะทำให้ล้างได้ดี หากทำความสะอาดให้หลังการใช้งาน
 - หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดด้วยของเฝากรองด้วยเบรนท์ก่อนอุ่น

การทำความสะอาดโดยปืนแบบรวมเรียว

- 1 ใส่น้ำอุ่นลงในโกลบันครึ่งหนึ่ง และเติมน้ำยาทำความสะอาดประมาณ 2-3 หยด
- 2 หมุนบุ่มควบคุมการทำงานไปที่ปุ่ม Pulse ประมาณ 2-3 ครั้ง
- 3 ถอดโกลบัน แล้วเทน้ำออก และล้างด้วยน้ำก็อก

การจัดเก็บ

- 1 ใน การจัดเก็บล้ำไฟ ให้ตันล้ำไฟเข้าไปในช่องเก็บล้ำไฟในตัวฐาน (รูปที่ 21)
- 2 ควรจัดเก็บในที่แห้งและปลอดภัย

สภาพแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะล้ำหรับน้ำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 22)

การรับประทานและการบริการ

หากคุณต้องการอุปกรณ์หรือต้องการทราบข้อมูล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศไทยของคุณ (หมายเหตุ: โทรตั้งหนึ่งต่อหนึ่ง อยู่ในเอกสารผ่านพัมพ์ที่มีข้อความต่อหน้าต่อหลัง) หากในประเทศไทยของคุณไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตนักงานที่ของบริษัท Philips ในประเทศไทย

สุตรอาหาร

สำหรับสุตรอาหารเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.philips.com/kitchen

อาหารสำหรับเด็กการก

ล่วนผสม

- เนื้อไก่สูก 250 กรัม
- มันหัวรากชั้มสูก 250 กรัม
- ถั่วเขียวจัมสูก 250 กรัม
- น้ำ 450 มล.

- 1 ปรุงคนโกลบันเข้ากับแท่นเมเตอร์ (ถูหัวข้อ 'การใช้งาน')
- 2 หั่นล่วนผสมออกเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 2x2x2 ซม.
- 3 ใส่ล่วนผสมลงในโกลบัน
- 4 บีบล่วนผสมประมาณ 25 วินาที (นานกว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ละเอียดยิ่งขึ้น)

หมายเหตุ: หากคุณต้องการเตรียมอาหารในปริมาณที่มากขึ้น รอให้เครื่องเย็นลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนเทล้วนผสมล้วนต่อไป

น้ำเต้าหู้

ล้วนผสม

- ถั่วงอก 180 กรัม (เปลือก)
- น้ำอุ่น 500 มล.

1 แข็งเหลืองในน้ำสะอาดอุ่นน้อย 4 ชั่วโมง จนกว่าถั่วงอกจะนิ่ม

2 นำถั่วงอกที่แข็งพอ กับน้ำอุ่น 500 มล. ใส่เครื่องบีบประมาณ 60 วินาที จนกว่าจะคลายเป็นของเหลว

หมายเหตุ: หากคุณต้องการเตรียมอาหารในปริมาณที่มากขึ้น รอให้เครื่องเย็นลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนเทล้วนผสมล้วนต่อไป

ผงพะโล้ 5 ชนิด

ล้วนผสม

- เมล็ดถั่ว 2 กรัม
- ไข่ゆก้า 2 กรัม
- อบเชยจีน 2 กรัม
- กานพูลุ 2 กรัม
- ชีโรเมทก 2 กรัม

1 ใส่ล้วนผสมทั้งหมดในโถบด

2 บดล้วนผสมทั้งหมด 30 วินาที

หมายเหตุ: หากคุณต้องการเตรียมอาหารในปริมาณที่มากขึ้น รอให้เครื่องเย็นลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนเทล้วนผสมล้วนต่อไป

แกงมัสมั่น

ล้วนผสม

- หอมแดง 20 กรัม
- กระเทียม 15 กรัม
- ข่า 7 กรัม
- ต้นไคร้ 9 กรัม
- กานพูลุ 2 ช้อน
- เมล็ดถั่ว 1 ช้อนโต๊ะ
- เมล็ดยี่หร่า 1 ช้อนโต๊ะ
- พริกแห้ง 3 เม็ด
- พริกไทย 5 เม็ด
- กะปี 1 ช้อนโต๊ะ
- เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ

1 สไลด์ข่าเป็นชิ้นประมาณ 1 ซม.

2 ใส่ล้วนผสมทั้งหมดในโถบด

3 บดล้วนผสมทั้งหมด 30 วินาที

หมายเหตุ: หากคุณต้องการเตรียมอาหารในปริมาณที่มากขึ้น รอให้เครื่องเย็นลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนเทล้วนผสมล้วนต่อไป

น้ำพริก

ล้วนผสม

- พริกแหงสุด 20 กรัม
- หอมแดง 30 กรัม
- กระเทียม 2 กก.

1 หั่นพริกและหอมแดงเป็นชิ้นใหญ่ให้พอเหมาะสมกับโถเครื่องบดแล้ว

2 ใส่น้ำพริก หอมแดง และกระเทียมในโถเครื่องบดแล้ว

3 บดล้วนผสมทั้งหมด 30 วินาที

54 ภาษาไทย

หมายเหตุ: หากคุณต้องการเรียนภาษาในบริมาณที่มากขึ้น ให้เครื่องเขียนลงจนมีอุณหภูมิท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนเทล้วนสมส่วนต่อไป

คำダメที่พบบ่อย

หมายเรื่องไม่ท่านหรือท่านไม่ไปคือ ให้ตรวจสอบความรายละเอียดด้านล่างหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips ที่ www.philips.com/welcome หากปัญหาของเครื่องคือคุณประสาทไม่ได้ถูกใจในรายละเอียดนี้หรือไม่ในอินเดอร์เน็ตเครื่องอาจมีข้อกหง่วง ในกรณีดังกล่าวขอแนะนำให้คุณน้ำเครื่องไปที่หัวหน้าหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองโดย Philips

ค่าダメ	ค่าตอบ
เหตุใดเครื่องจึงไม่ทำงาน	เครื่องยังไม่รุนแรงเมื่อระบบป้องกันความปลอดภัย เช่นป้องกันไฟไหม้หรือการทำงานหากประกอบโดยบ้านพักอาศัย. โนบดับเพลิงไฟปีก (เฉพาะบางรุ่นท่านี้) หรือโนบด (เฉพาะบางรุ่นท่านี้) เข้าบันแท่นเมดเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ประกอบเข้าเลส ให้ตรวจสอบว่าได้ประกอบโดยบ้านพักอาศัย โนบดับเพลิงไฟปีกหรือโนบดถูกต้องแล้ว (ดูส่วนต่างๆ ในคู่มือผู้ใช้งาน ก่อนอื่นให้หมุนปุ่มควบคุมการทำงานไปที่ 0)
อุปกรณ์ทุกชิ้นที่สามารถดูดออกได้ สา มารถดักจับตัวเวลเครื่องล้างจานได้หรือไม่	ได้ ยกเว้นแต่มอเดอร์และชุดอุปกรณ์ล้างหัวน้ำซึ่งต้องห่อหุ้นท่อหัวน้ำที่อยู่ในตู้ (เฉพาะบางรุ่นท่านี้)
คำว่า 'pulse' หมายถึงอะไร	หมายถึง เมื่อคุณหมุนปุ่มควบคุมการทำงานไปที่ปุ่ม Pulse เครื่องจะทำงานที่รับตัวความเร็วสูงสุด ตลอดเวลาที่ปุ่มควบคุมอยู่ที่ตำแหน่งนี้ ให้ใช้ปุ่ม Pulse เมื่อคุณต้องการควบคุมจังหวะการบ้าน
สามารถเทน้ำร้อนดีลดลงในโถปั่นได้หรือไม่	ไม่ได้ ควรปล่อยให้น้ำมีอุณหภูมิเขียนลงประมาณ $80^{\circ}\text{C}/175^{\circ}\text{F}$ เพื่อป้องกันไฟไหม้โดยปั๊มน้ำเสียหาย
เหตุใดจึงมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาก แต่ไม่ลดลงระหว่างการทำงานของเครื่อง	โดยปกติแล้ว เครื่องยังคงเครื่องไนโตรเจนไนท์ในพื้นประลังก์หรือลิฟฟ์แอน์ ให้มีผลริมใช้งานในรีซิมเมราก ซึ่งหากการณ์เน้นน้ำจะหลุดไปหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้ว ให้ลักษณะหนึ่ง เช่นร่องบาน้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือลิฟฟ์แอน์ ให้หมุนปุ่มควบคุมการทำงานไปที่ 0 และปล่อยให้เครื่องเขียนลงประมาณ 60 นาที
ควรทำความสะอาด ไม่เครื่องหยุดการทำงาน เนื่องจากมีสิ่งอุดตันที่ดูบในมีด	หมุนปุ่มควบคุมการทำงานไปที่ 0 และใช้ไม้พายเชือล้วนผลไม้ที่อุดตันที่ดูดโดยมีดออก ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ปั๊มน้ำบริมาณที่น้อยลง
เหตุใดน้ำผลไม้หรือเมล็ดพืชเหลืองจึงมีกาห์ บูลีส์กับเปลือกเมล็ดพืช	เพื่อป้องกันการลอกและเปลือกปอนอยู่ในแก้วเครื่องดื่ม ควรตรวจสอบแหล่งกรอง (เฉพาะบางรุ่นท่านี้) เข้าบันโดยบ้านพักอาศัยก็จะเมล็ดพืช และปีกไฟปีก และประกอบเข้าคงที่กับเปลือกเมล็ดพืชแล้วกัน
ควรทำความสะอาด ไม่ได้ปั๊มน้ำ	หมุนปุ่มควบคุมการทำงานไปที่ 0 และหัวล้วนผลไม้ที่อุดตันที่ดูดโดยมีดออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ห่วงยางกันรั่วซึ่งเข้ากับบูลีส์กับเปลือกเมล็ดพืชแล้วกัน

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome. Máy được trang bị hệ thống an toàn tích hợp để ngăn máy hoạt động khi chưa lắp hoặc chưa lắp đúng các phụ kiện vào máy.

Mô tả tổng quát (Hình 1)

- 1** Bộ phận mô-tơ có núm điều chỉnh
- 2** Cài đặt xung
- 3** Cài đặt tốc độ
- 4** Nút xay nước đá
- 5** Bộ lưỡi cắt của máy xay bằng nhựa
- 6** Bình máy xay bằng nhựa (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)
- 7** Chỉ báo mức
- 8** Nắp của cối xay bằng nhựa
- 9** Lỗ trên nắp
- 10** Cốc định lượng
- 11** Bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2168/HR2167)
- 12** Bộ lưỡi cắt của máy xay bằng thủy tinh
- 13** Bình máy xay bằng thủy tinh (chỉ có ở kiểu HR2170)
- 14** Chỉ báo mức
- 15** Nắp bình máy xay bằng thủy tinh
- 16** Lỗ trên nắp
- 17** Cốc định lượng
- 18** Bộ nồi
- 19** Tô máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2168)
- 20** Dao xay thịt
- 21** Nắp máy cắt
- 22** Bộ lưỡi cắt máy nghiền
- 23** Cối nghiền (chỉ có ở kiểu HR2168/HR2167/HR2161)

Lưu ý

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Tổng quát

Nguy hiểm

- Không nhúng bộ phận mô-tơ vào trong nước hay vào bất kỳ chất lỏng nào khác, bạn cũng không được rửa nó dưới vòi nước. Chỉ dùng một miếng vải ẩm để lau bộ phận mô-tơ.

Cảnh báo

- Kiểm tra xem điện áp ghi trên máy có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi bạn nối máy vào nguồn điện.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Không nên sử dụng thiết bị nếu dây điện, phích cắm hoặc những bộ phận khác bị hỏng.
- Không sử dụng bình máy xay, cối nghiền (chỉ có ở một số kiểu nhất định) hoặc tô máy cắt (chỉ có ở một số kiểu nhất định) để tắt và bật máy.
- Không được để thiết bị chạy mà không theo dõi.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan hoặc có dấu hiệu tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.

- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Không chạm vào bộ lưỡi cắt, đặc biệt khi máy đang được cắm điện. Các lưỡi cắt rất sắc.

Chú ý

- Luôn luôn rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện trước khi lắp ráp, tháo rời, vệ sinh hoặc điều chỉnh bất cứ bộ phận nào.
- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc biệt khuyên dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không phải của Philips, việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.
- Không cho nguyên liệu vào vượt quá chỉ báo mức tối đa trên cối xay sinh tố, cốc nghiên (chỉ có ở một số kiểu nhất định) và tô máy cắt (chỉ có ở một số kiểu nhất định).
- Không sử dụng vượt quá số lượng tối đa và thời gian xử lý được chỉ định trong các bảng tương ứng.
- Chỉ có thể bật máy nếu bình máy xay, cốc nghiên (chỉ có ở một số kiểu nhất định) hoặc tô máy cắt (chỉ có ở một số kiểu nhất định) được lắp vào bộ phận mô-tơ đúng cách.

Máy xay sinh tố

Cảnh báo

- Không cho ngón tay hoặc bất kỳ vật nào vào cối khi máy đang hoạt động.
- Đảm bảo bộ lưỡi cắt được gắn chặt vào bình máy xay trước khi lắp bình máy xay vào bộ phận mô-tơ.
- Không chạm vào các cạnh cắt của bộ lưỡi cắt của máy xay khi cầm hoặc vệ sinh máy. Chúng rất sắc và có thể dễ dàng làm bạn đứt tay.
- Nếu bộ lưỡi cắt bị kẹt, rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi lây nguyên liệu làm kẹt dao cắt ra.

Chú ý

- Không đổ nguyên liệu nóng trên 80°C vào bình máy xay.
- Để tránh nguyên liệu bị tràn ra ngoài, không cho quá 1,5 lít nguyên liệu lỏng vào bình máy xay, đặc biệt khi xay ở tốc độ cao. Không cho quá 1 lít nguyên liệu lỏng vào bình máy xay khi xay các chất lỏng còn nóng hay những nguyên liệu dễ sủi bọt.
- Nếu thực phẩm dính vào thành bình máy xay, hãy tắt máy và tháo phích cắm ra khỏi ổ điện. Sau đó sử dụng thìa để tách thực phẩm ra khỏi thành.
- Luôn đảm bảo nắp được đẩy/lắp theo đúng cách vào bình và cốc định lượng được lắp vào nắp theo đúng cách trước khi bắt máy.
- Chỉ có ở kiểu HR2170: Bình được làm bằng thủy tinh và do vậy rất dễ vỡ. Không làm rơi bình trên sàn cứng. Ngoài ra, tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nếu bình quá lạnh, rửa kỹ bình bằng nước âm trước khi đổ dung dịch nóng vào bình. Nếu bình thủy tinh bị rạn, hãy ngừng sử dụng bình.

Máy nghiên (chỉ có ở kiểu HR2168/HR2167/HR2161)

Cảnh báo

- Đảm bảo bộ lưỡi cắt được gắn chặt vào cốc nghiên trước khi lắp cốc nghiên vào bộ phận mô-tơ.
- Không chạm vào các cạnh cắt của bộ lưỡi cắt của máy nghiên khi sử dụng hoặc vệ sinh máy. Chúng rất sắc và có thể dễ dàng làm bạn đứt tay.
- Không được sử dụng máy nghiên để nghiên các nguyên liệu quá cứng như hạt đậu khấu và nước đá viên.

Chú ý

- Không sử dụng máy nghiên lâu quá 30 giây không nghỉ. Hãy để máy nguội về nhiệt độ phòng giữa mỗi lần sử dụng.
- Luôn nhớ nghiên định hương, cây hồi và hạt hồi cùng với các nguyên liệu khác. Nếu nghiên riêng lẻ, các nguyên liệu này có thể làm hỏng phần nhựa của máy.

- Cối nghiền có thể bị đổi màu khi dùng để nghiền các loại nguyên liệu như đinh hương, cây hồi và cây quế.
- Máy nghiền không thích hợp để cắt thịt sống. Hãy dùng máy xay hoặc cối xay thịt.
- Không nên dùng máy nghiền để nghiền chất lỏng như nước trái cây.

Máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2168)

Cảnh báo

- Đảm bảo bộ nồi được lắp chặt vào cối xay thịt trước khi lắp cối xay thịt vào bộ phận mô-tơ.
- Không chạm vào các cạnh cắt của bộ lưỡi cắt của cối xay thịt khi sử dụng hoặc vệ sinh máy. Chúng rất sắc và có thể dễ dàng làm bạn đứt tay.
- Không cho ngón tay hay bất kỳ vật nào vào cối xay thịt khi máy đang hoạt động.
- Nếu bộ lưỡi cắt bị kẹt, rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi lấy nguyên liệu làm kẹt dao cắt ra.

Chú ý

- Luôn đảm bảo nắp được đẩy theo đúng cách vào cối xay thịt trước khi bật máy.
- Nếu thực phẩm dính vào thành cối xay thịt, hãy tắt máy và tháo phích cắm ra khỏi ổ điện. Sau đó sử dụng thìa để tách thực phẩm ra khỏi thành.

Bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2168/HR2167)

Chú ý

- Không sử dụng bộ lọc để chê biến nguyên liệu nóng trên 80C.
- Không làm bộ lọc bị quá tải. Không đổ nguyên liệu vào bộ lọc vượt quá phần kim loại của nó.
- Luôn đảm bảo nắp bình máy xay được đẩy/lắp đúng cách và cốc định lượng được lắp vào nắp theo đúng cách vào nắp trước khi bật máy.
- Cắt trái cây thành từng miếng nhỏ trước khi cho vào bộ lọc.
- Ngâm các nguyên liệu khô, chẳng hạn như đậu nành, trong nước trước khi cho chúng vào bộ lọc.

Tử trường điện (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các từ trường điện (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.

Thiết bị khoá an toàn bên trong máy

Tính năng này đảm bảo rằng bạn chỉ có thể bật máy nếu bình máy xay và nắp, cốc nghiền hoặc tô máy cắt và nắp (chỉ có ở một số kiểu nhất định) được lắp vào bộ phận mô-tơ theo đúng cách. Nếu bình máy xay và nắp, cốc nghiền hoặc tô máy cắt và nắp đã được lắp đúng cách, khóa an toàn tích hợp sẽ được mở.

Bộ phận bảo vệ mạch điện của mô-tơ

Máy được trang bị bộ phận bảo vệ mạch điện mô-tơ, bộ phận này sẽ tắt mô-tơ nếu mô-tơ bị kẹt (hiện tượng này có thể xảy ra khi phải chê biến quá nhiều thức ăn hoặc máy không được sử dụng theo đúng hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng). Nếu điều này xảy ra, trước tiên tắt máy và rút phích cắm ra khỏi ổ điện và để máy nguội xuống nhiệt độ trong phòng. Sau đó kiểm tra xem lượng nguyên liệu đang được chê biến có vượt quá số lượng được nêu trong hướng dẫn sử dụng không hoặc có vật gì đó làm tắc bộ lưỡi cắt.

Trước khi sử dụng lần đầu

Rửa sạch thật kỹ các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm trước khi sử dụng thiết bị này lần đầu tiên (xem chương 'Làm sạch thiết bị').

Cách sử dụng máy**Máy xay sinh tố****Máy xay được dùng để:**

- Trộn chất lỏng, ví dụ sản phẩm sữa, nước xốt, nước trái cây, xúp, các loại đồ uống thập cẩm.
- Trộn các nguyên liệu mềm, như bột làm bánh hay sô cô la ma-don-ne.
- Nghiền nhừ các thức ăn chín, ví dụ để làm thức ăn cho trẻ.

Cách chuẩn bị máy xay

- 1** Vặn bộ lưỡi cắt máy xay theo chiều kim đồng hồ vào bình máy xay (Hình 2).
 - 2** Gắn bình máy xay cùng với bộ phận lưỡi cắt vào bộ phận mô-tơ và xoay theo chiều kim đồng hồ cho tới khi khớp vào vị trí (Hình 3).
 - 3** Bỏ nguyên liệu vào cối xay.
Để nguyên liệu nóng nguội xuống trước khi cho nguyên liệu vào bình máy xay (nhiệt độ tối đa là 80°C/175°F).
 - 4** Chỉ có ở kiểu HR2170: đóng chặt nắp vào bình bằng cách ân nắp xuống (1) và xoay nắp theo chiều kim đồng hồ (2). (Hình 4)
- Lưu ý: Để đảm bảo rằng lưỡi lọc trong nắp được đặt ở phía trước vòi của bình để có thể đổ nước ra.
- 5** Chỉ có ở kiểu HR2168/HR2167/HR2161/HR2160: đóng nắp.
 - 6** Ân cốc định lượng vào nắp (Hình 5).

Lưu ý: Để tháo rời máy xay, hãy thực hiện theo hướng dẫn nêu trên theo thứ tự và chiều ngược lại.

Sử dụng cối xay

Không cho ngón tay hay vật khác (như dao bay) vào bình trong khi máy đang hoạt động.

Không cho nguyên liệu vượt chỉ báo quá mức tối đa trên bình máy xay.

- 1** Cắm phích vào nguồn điện.

- 2** Bật máy. (Hình 6)

Lưu ý: Xem bảng máy xay ở cuối hướng dẫn sử dụng này để biết số lượng, cài đặt tốc độ và thời gian chêbiên được đề xuất.

- Để chêbiên nguyên liệu ở cài đặt tốc độ cụ thể, xoay núm điều chỉnh đèn cài đặt tốc độ yêu cầu.

Không để máy chạy quá 2 phút mỗi lần. Để thiết bị nguội xuống nhiệt độ trong phòng trước khi tiếp tục chêbiên.

- Để chêbiên nguyên liệu thật nhanh, hãy xoay núm điều chỉnh sang cài đặt xung (P) vài lần.

Không sử dụng cài đặt xung quá vài giây mỗi lần.

- Để nghiên đá, hãy nhấn nút ICE (ĐÁ).

- 3** Khi chêbiên xong, xoay núm điều chỉnh sang vị trí 0 và rút phích cắm điện của máy ra.

Luôn để núm xoay ở vị trí 0 trước khi mở nắp.

Mẹo

- Để tránh nguyên liệu bị tràn ra ngoài, không cho quá 1,5 lít nguyên liệu lỏng vào bình máy xay, đặc biệt khi xay ở tốc độ cao. Không cho quá 1 lít nguyên liệu lỏng vào bình máy xay khi xay các chất lỏng còn nóng hay những nguyên liệu dễ sủi bọt.
- Bạn có thể sử dụng lỗ trên nắp để cho nguyên liệu vào trong khi máy đang chạy (Hình 7).
- Không chêbiên nguyên liệu khô lâu quá 1 phút.

- Cắt nguyên liệu cứng thành những miếng nhỏ trước khi cho vào bình máy xay. Không xay khô lượng lớn các chất rắn cùng lúc mà chia thành nhiều mẻ nhỏ.
- Nếu bạn chưa hài lòng với kết quả khi xay nguyên liệu rắn, hãy sử dụng cài đặt xung vài lần để máy xay chạy nhanh. Nếu bạn muốn sử dụng thìa, hãy tắt máy, mở nắp ra và sau đó khuấy nguyên liệu. Bạn cũng có thể lây bớt nguyên liệu ra và xử lý lượng nhỏ hơn.
- Để nghiên đá viên, cho tối đa 5 viên đá vào bình mỗi lần và nhấn nút ICE vài lần.

Chỉ có ở kiểu HR2170: Bình được làm bằng thủy tinh và do vậy rất dễ vỡ. Không làm rơi bình trên sàn cứng. Ngoài ra, tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nếu bình quá lạnh, rửa kỹ bình bằng nước ấm trước khi đổ dung dịch nóng vào bình. Nếu bình thủy tinh bị rạn, hãy ngừng sử dụng bình.

Bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2168/HR2167)

Bạn có thể sử dụng bộ lọc để xay nước sốt, nước quả hay côctai rất tinh. Tất cả vỏ hay hạt sẽ được ở bộ lọc giữ lại.

HR2170/HR2160: Bạn có thể đặt mua bộ lọc (loại sô HR2963) từ đại lý Philips.

Không đổ nguyên liệu vào bộ lọc vượt quá vân kim loại.

Không sử dụng bộ lọc để chè biến nguyên liệu nóng.

Cách chuẩn bị bộ lọc trước khi sử dụng

1 Lắp bình máy xay vào bộ phận mô-tơ (xem mục 'Cách chuẩn bị máy xay trước khi sử dụng' trong chương này).

2 Lắp bộ lọc vào bình máy xay (Hình 8).

Đảm bảo rằng bộ lọc được đặt vào đáy bình theo đúng cách.

Các rãnh của bộ lọc và các răng bên trong bình máy xay giúp bạn đặt bộ lọc vào đúng vị trí.

3 Đóng nắp.

Cách sử dụng bộ lọc

1 Cho nguyên liệu vào bộ lọc qua lỗ trên nắp.

Cắt trái cây thành từng miếng nhỏ và ngâm các hạt đậu khô, chẳng hạn như đậu nành, trước khi chè biến trong bộ lọc.

2 Thêm nước hay chất lỏng khác vào.

3 Đặt cốc định lượng vào nắp, vặn núm điều chỉnh sang tốc độ cao nhất và để máy chạy tối đa 40 giây.

4 Xoay núm điều chỉnh về vị trí 0 và tháo bình máy xay ra khỏi bộ phận mô-tơ.

5 Rót đồ uống ra qua vòi bình máy xay (Hình 9).

Đảm bảo nắp đã được đẩy và chén đóng đã được lắp vào nắp. Làm như vậy sẽ ngăn không cho xơ và vỏ lắn vào đồ uống của bạn.

6 Để có hiệu quả tối ưu, hãy đặt lại bình cùng với phần nguyên liệu còn lại vào máy, mà không mở nắp. Sau đó để máy chạy vài giây.

7 Rót phần đồ uống còn lại ra.

8 Khi chè biến xong, xoay núm điều chỉnh sang vị trí 0 và rút phích cắm điện của máy ra.

Mẹo

- Lưu ý: khi chè biến một lượng lớn nguyên liệu, chúng tôi khuyên bạn không nên cho tất cả nguyên liệu vào bộ lọc cùng một lúc. Hãy bắt đầu xay một lượng nhỏ và để máy hoạt động trong vài giây. Sau đó, tắt máy và cho thêm một lượng nhỏ nguyên liệu nữa. Lặp lại quá trình này

cho đến khi bạn chêbiênhếtsônguyênliệu. Luôn nhớ giữ nắpđậytrênmáyxaytrongquátrìnhxay.

- Để có được hiệu quả tốt nhất khi ép nước trái cây và côctai, thêm khoảng 300ml nước cho 150g trái cây. Bạn cũng có thể sử dụng dung dịch khác, ví dụ một loại dung dịch để làm côctai.
- Để làm sinh tố cà chua, cắt quả cà chua làm tư và bỏ qua khoảng trống trên nắp đậy trong khi máy đang chạy.

Máy nghiền (chỉ có ở kiểu HR2168/HR2167/HR2161)

Bạn có thể sử dụng máy nghiền để nghiên và cắt các loại nguyên liệu như là hạt tiêu, hạt mè đen, gạo, lúa mì, cùi dừa, lạc (đã bóc vỏ), hạt cà phê, đậu tương khô, đậu Hà Lan khô, pho mát, bánh mì vụn, v.v...

Luôn nhớ nghiên định hương, cây hôi và hạt hôi cùng với các nguyên liệu khác. Nếu nghiên riêng lẻ, các nguyên liệu này có thể làm hỏng phần nhựa của máy.

Máy nghiền không thích hợp để cắt những nguyên liệu quá cứng như hạt nhục đậu khấu và đá viên.

Không cho nguyên liệu vượt chỉ báo quá mức tối đa trên cốc nghiền.

Cách chuẩn bị máy nghiền trước khi sử dụng

- 1 Cho nguyên liệu khô vào cối xay nghiên (Hình 10).

Lưu ý: Xem bảng máy nghiền ở cuối hướng dẫn sử dụng này để biết số lượng và thời gian chêbiênđượcđểxuất.

- 2 Xoay bộ phận lưỡi cắt của máy nghiền theo chiều kim đồng hồ vào cốc nghiên (Hình 11).
- 3 Lộn ngược máy xay đã lắp và xoay theo chiều kim đồng hồ vào bộ phận mô-to (Hình 12).

Sử dụng chức năng nghiên

- 1 **Bật máy.**

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cài đặt xung hoặc tốc độ 5.

Không để máy nghiên chạy quá 30 giây liên tục.

- 2 Khi chêbiênxong, xoay núm điều chỉnh sang vị trí 0 và rút phích cắm điện của máy ra.
- 3 Để tháo máy nghiên ra khỏi bộ phận mô-to, xoay máy nghiên ngược chiều kim đồng hồ.

Máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2168)

Bạn có thể sử dụng ly xay thịt để cắt những nguyên liệu như là hành, thịt, lá thơm, rau, trái cây, sô cô la, pho mát rắn, đồ ăn cho em bé và lạc.

HR2170/HR2161/HR2160: Bạn có thể đặt mua máy cắt (loại số HR2965) từ đại lý Philips.

Không sử dụng ly xay thịt để trộn chất lỏng. Hãy sử dụng máy xay cho mục đích này.

- 1 Lắp bộ nồi của ly xay thịt vào đáy ly xay thịt (1). Xoay bộ nồi ngược chiều kim đồng hồ để cố định nó (2) (Hình 13).
- 2 Đặt cối xay thịt (1) vào bộ phận mô-to và theo chiều kim đồng hồ để cố định nó (2). (Hình 14).
- 3 Đặt bộ lưỡi cắt vào cối xay thịt (Hình 15).
- 4 Cho nguyên liệu vào tô trộn (Hình 16).

Lưu ý: Xem bảng cối xay thịt ở cuối hướng dẫn sử dụng này để biết số lượng và thời gian chê biến được đề xuất.

Không chê biến nguyên liệu vượt quá số lượng tối đa được nêu trong bảng.

Mẹo: Cắt những phần đồ ăn lớn thành từng miếng nhỏ 1-2cm.

5 Đậy nắp vào ly xay thịt (1) và xoay nắp theo chiều kim đồng hồ để cố định nắp (2) (Hình 17).

Lưu ý: Đảm bảo nắp được cố định theo đúng cách trước khi bật máy.

6 Bật máy.

Lưu ý: Nếu máy bị lắc giật do đồ ăn phân bô không đều, hãy đặt tay bạn lên nắp.

Lưu ý: Cối xay thịt cần vài giây để chê biến. Không để máy chạy quá vài giây.

7 Khi chê biến xong, xoay núm điều chỉnh sang vị trí 0 và rút phích cắm điện của máy ra.

8 Xoay ly xay thịt ngược chiều kim đồng hồ (1) và tháo nó ra khỏi bộ phận mô-tơ (2). (Hình 18)

9 Xoay bộ nồi theo chiều kim đồng hồ (1) và tháo nó ra khỏi đáy cối xay thịt (2) (Hình 19).

10 Tháo nắp và bộ lưỡi cắt ra khỏi cối xay thịt.

Cẩn thận khi sử dụng bộ lưỡi cắt. Các cạnh cắt của bộ lưỡi cắt rất sắc.

11 Đỗ thức ăn ra khỏi cối xay thịt.

Luôn tháo bộ lưỡi cắt ra khỏi cối xay thịt và tháo cối xay thịt ra khỏi bộ phận mô-tơ trước khi làm sạch cối xay thịt.

Vệ sinh máy (Hình 20)

Không sử dụng miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc những chất lỏng mạnh như là xăng hoặc axêtôn để lau chùi thiết bị.

1 Tắt máy và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

2 Tháo tất cả các bộ phận có thể tháo rời trước khi làm sạch chúng.

3 Làm sạch các bộ phận khác nhau của máy như được chỉ dẫn trong bảng làm sạch.

Mẹo

- Cách tốt nhất để làm sạch thiết bị và các bộ phận là ngay sau khi sử dụng.
- Nếu cần, rửa sạch lưỡi bộ lọc bằng bàn chải thật mềm.

Rửa nhanh bình máy xay

1 Đỗ nước âm vào nửa bình máy xay và thêm vài giọt dung dịch tẩy rửa.

2 Xoay núm điều chỉnh sang cài đặt xung vài lần.

3 Tháo bình máy xay, đỗ sạch đồ ăn ra khỏi bình và rửa bình dưới vòi nước.

Bảo quản

1 Để bảo quản dây điện, ân dây điện vào ngăn bảo quản dây điện trong đê máy (Hình 21).

2 Bảo quản máy ở nơi an toàn và khô ráo.

Môi trường

- Không vứt thiết bị chung với chất thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó. Hãy đem nó đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như thế, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 22).

Bảo hành & dịch vụ

Nếu bạn cần dịch vụ hoặc thông tin hay gấp trực trặc, vui lòng vào trang web của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành khắp thế giới). Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.

Công thức nấu ăn

Để có thêm công thức nấu ăn, vui lòng vào trang web www.philips.com/kitchen.

Đồ ăn cho bé**Nguyên liệu:**

- 250g thịt gà đã nấu
- 250g khoai tây đã nấu
- 250g đậu xanh đã nấu chín
- 450ml sữa

1 Lắp cối xay vào bộ phận mỗ tơ (xem phần “Cách sử dụng máy”).

2 Trước tiên cắt nguyên liệu thành miếng nhỏ 2x2x2cm.

3 Bỏ nguyên liệu vào cối xay.

4 Xay nguyên liệu trong 25 giây (hoặc lâu hơn để xay mịn hơn).

Lưu ý: Nếu bạn muốn làm nhiều đồ ăn, hãy để cho thiết bị nguội xuống nhiệt độ trong phòng trước khi chế biến mẻ nguyên liệu tiếp theo.

Sữa đậu nành**Nguyên liệu:**

- 180g đậu nành (đã ngâm)
- 500ml nước ấm

1 Ngâm đậu nành bằng nước sạch trong ít nhất 4 giờ cho đến khi đậu nành mềm ra.

2 Xay đậu nành đã ngâm cùng với 500ml nước ấm bằng máy xay sinh tố trong khoảng 60 giây cho đến khi có được chất lỏng mịn nhuyễn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn làm nhiều đồ ăn, hãy để cho thiết bị nguội xuống nhiệt độ trong phòng trước khi chế biến mẻ nguyên liệu tiếp theo.

Ngũ vị hương**Nguyên liệu:**

- 2g hạt hồi
- 2g đai hồi
- 2g muồng
- 2g đinh hương
- 2g cam thảo

1 Cho tất cả nguyên liệu vào cốc nghiền.

2 Xay nguyên liệu trong 30 giây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn làm nhiều đồ ăn, hãy để cho thiết bị nguội xuống nhiệt độ trong phòng trước khi chế biến mẻ nguyên liệu tiếp theo.

Massaman của Thái

Nguyên liệu:

- 20g hẹ tây
- 15g tỏi
- 7g riềng nêp
- 9g Sả chanh
- 2 đinh hương
- 1 thìa hạt rau mùi
- 1 thìa hạt thì là Ai-Cập
- 3 ớt khô
- 5 hạt tiêu
- 1 thìa bột tôm
- 1 thìa muối

1 Cắt riêng nêp thành lát nhỏ dày khoảng 1cm.

2 Cho tất cả nguyên liệu vào cốc nghiền.

3 Xay nguyên liệu trong 30 giây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn làm nhiều đồ ăn, hãy để cho thiết bị nguội xuống nhiệt độ trong phòng trước khi chè biến mě nguyên liệu tiếp theo.

Bột ớt

Nguyên liệu:

- 20g ớt đỏ tươi
- 30g hẹ tây
- 2 tỏi nhánh

1 Cắt ớt và hẹ tây thành các miếng lớn vừa với tô máy cắt.

2 Cho ớt, hẹ tây và tỏi vào tô máy cắt.

3 Băm nguyên liệu trong 30 giây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn làm nhiều đồ ăn, hãy để cho thiết bị nguội xuống nhiệt độ trong phòng trước khi chè biến mě nguyên liệu tiếp theo.

Các câu hỏi thường gặp

Nếu thiết bị không hoạt động hoặc hoạt động không bình thường, trước tiên hãy kiểm tra bảng bên dưới hoặc vào trang web của Philips tại www.philips.com/welcome. Nếu vẫn đề không được nêu trong bảng này hoặc trên internet, có thể thiết bị bị hư. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn mang thiết bị tới đại lý hoặc trung tâm dịch vụ được Philips ủy quyền.

Câu hỏi	Trả lời
Tại sao thiết bị không làm việc?	Máy được trang bị hệ thống an toàn. Máy sẽ không hoạt động nếu bình máy xay và nắp, tô máy cắt và nắp (chỉ có ở một số kiểu nhất định) hoặc cốc nghiền (chỉ có ở một số kiểu nhất định) không được lắp đúng cách vào bộ phận mô-tơ. Kiểm tra xem bạn đã lắp bình máy xay và nắp, tô máy cắt và nắp hoặc cốc nghiền đúng cách chưa (xem các mục khác nhau trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này). Trước tiên, xoay núm điều chỉnh về vị trí 0.
Tôi có thể rửa tất cả các bộ phận có thể tháo rời bằng máy rửa chén không?	Có, ngoại trừ bộ phận mô-tơ và bộ nồi của máy cắt (chỉ có ở một số kiểu nhất định).
Chế độ "pulse" nghĩa là gì?	Khi xoay núm điều chỉnh sang cài đặt xung, máy sẽ chạy ở tốc độ cao nhất, với điều kiện bạn giữ núm ở vị trí này. Hãy sử dụng cài đặt xung nếu bạn muốn kiểm soát tốt hơn đối với quá trình chè biền.
Tôi có thể đồ nguyên liệu đang sôi vào bình máy xay không?	Không, hãy để nguyên liệu nóng nguội xuống còn khoảng 80°C/175°F để tránh làm hư bình.
Vì sao mô-tơ phát ra mùi khó chịu trong khi chè biền?	Việc một thiết bị mới tạo ra mùi khó chịu hoặc bốc một chút khói trong vài lần sử dụng đầu tiên là điều bình thường. Hiện tượng này sẽ hết sau khi bạn đã sử dụng máy vài lần. Máy cũng có thể tạo ra mùi khó chịu hoặc bốc khói nếu nó đã được sử dụng quá lâu. Trong trường hợp này, hãy xoay núm điều chỉnh sang vị trí 0 và để máy nguội xuống trong khoảng 60 phút.
Máy bị dừng vì bộ lưỡi cắt bị kẹt.Tôi phải làm gì?	Xoay núm điều chỉnh sang vị trí 0 và sử dụng dao bay để gạt nguyên liệu làm kẹt bộ lưỡi cắt ra. Chúng tôi cũng khuyên bạn chỉ nên chè biền ít nguyên liệu hơn.
Vì sao nước trái cây hay sữa đậu nành có xơ hoặc vỏ?	Để tránh không cho xơ và vỏ lắn vào đồ uống của bạn, đảm bảo bộ lọc (chỉ một số kiểu máy cụ thể) được lắp vào bình theo đúng cách, cốc định lượng được đẩy lại và nút đẩy được lắp vào nắp.
Cối xay bị rò rỉ.Tôi phải làm gì?	Xoay núm điều chỉnh sang vị trí 0 và đồ nguyên liệu ra. Đảm bảo vòng đệm được đặt vào đúng vị trí trên bộ lưỡi cắt. Ngoài ra, đảm bảo bộ lưỡi cắt được lắp theo đúng cách.

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

本產品配備內建式安全裝置，如果附件安裝有誤或尚未安裝時，機器將無法運作。

一般說明 (圖 1)

- 1** 馬達座 (附控制鉗)
- 2** 瞬間開關
- 3** 速度設定
- 4** 碎冰按鈕
- 5** 塑膠果汁機刀組
- 6** 塑膠果汁壺 (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)
- 7** 刻度標示
- 8** 塑膠果汁壺蓋
- 9** 蓋子開口
- 10** 量杯
- 11** 濾網 (限 HR2168/HR2167)
- 12** 玻璃果汁機刀組
- 13** 玻璃果汁壺 (限 HR2170)
- 14** 刻度標示
- 15** 玻璃果汁壺蓋
- 16** 蓋子開口
- 17** 量杯
- 18** 組合座
- 19** 攪拌槽 (限 HR2168)
- 20** 切碎機刀組
- 21** 攪拌槽蓋
- 22** 研磨刀組
- 23** 研磨機容器 (限 HR2168/HR2167/HR2161)

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

一般

危險

- 不可將馬達座整個浸在水中或其他液體裡，亦不可將其放在水龍頭下沖洗；請以濕布清潔馬達座。

警示

- 在您連接產品電源時，請先檢查產品上所標示的電壓是否與當地主電壓吻合。
- 如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 插頭、電線或其他組件受損時，請勿使用本產品。
- 切勿使用果汁壺、研磨機容器 (限特定機型) 或攪拌槽 (限特定機型) 來開啟或關閉產品電源。
- 不可在無人看顧的情況下任由產品運作。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
- 請勿觸碰刀片，尤其是當果汁機插上電源時。刀片非常銳利。

警告

- 在您組裝、拆解或調整任何零件之前，請務必拔除本產品插頭。
- 請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或非飛利浦建議之配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保修即會失效。
- 請勿超過果汁壺、研磨機容器(限特定機型)、攪拌槽(限特定機型)上的最高容量刻度。
- 請勿超過相關表格中註明的最大用量與處理時間。
- 只有果汁壺、研磨機容器(限特定機型)或攪拌槽(限特定機型)正確組裝在馬達座上後，才能開啟本產品電源。

果汁機

警示

- 當產品運轉時，絕對不可以將手指或其他物品伸入內。
- 將攪拌杯組裝到馬達座上之前，確定刀組已穩固安裝在攪拌杯中。
- 清潔時避免觸碰研磨機刀組的刀鋒。刀鋒相當鋒利，接觸刀鋒很容易會割傷手指。
- 如果刀組卡住，請先拔掉插頭，再將卡住刀片的食材取出。

警告

- 請勿將溫度超過 80 °C 的食材放入果汁壺中。
- 為了避免溢出，果汁壺內不可倒入超過 1.5 公升的液體，特別是以高速處理時。當處理高溫液體或會產生泡沫的食材時，放入果汁壺內的食材不可超過 1 公升。
- 如果食材黏附在果汁壺的壁面，將產品的電源關閉，並拔除插頭，然後用刮刀將食材刮下。
- 在您開啟果汁機電源之前，請務必確認已妥善蓋好/裝好蓋子，也確實將量杯插入蓋中。
- 限 HR2170：果汁壺是以玻璃製成，因此屬於易碎品。請避免果汁壺掉落到硬質的地板上，此外也須避免過於激烈的溫度變化。如果果汁壺很冰，倒入高溫液體之前，先以溫水沖淋一番。玻璃果汁壺若出現裂痕，請停止使用。

研磨機(限 HR2168/HR2167/HR2161)

警示

- 將研磨機容器裝到馬達座上之前，確定刀組已穩固安裝在研磨機容器中。
- 清潔時避免觸碰研磨刀組的刀鋒。刀鋒相當鋒利，接觸刀鋒很容易會割傷手指。
- 切勿使用研磨機研磨非常硬的材料，例如肉豆蔻和冰塊。

警告

- 研磨機的連續操作時間不可超過 30 秒。每次處理的間隔時間，要讓研磨機冷卻至室溫。
- 攪拌丁香、大茴香與洋茴香時，務必加入其他食材。如果單獨處理，這些香料對本電器的塑膠材料會有不好的影響。
- 當研磨機用來處理如丁香、大茴香和肉桂這類食材時，研磨機容器可能會變色。
- 研磨機並不適合用來攪碎生肉；若要攪碎生肉，請使用攪拌機或切碎機。
- 請勿使用研磨機處理液態物質，如果汁。

切碎機(限 HR2168)

警示

- 將切碎機裝到馬達座之前，請先確定組合座已穩當固定在攪拌槽中。
- 清潔時避免觸碰切碎機刀組的刀鋒。刀鋒相當鋒利，接觸刀鋒很容易會割傷手指。
- 產品運轉時，絕對不可以將手指或其他物品伸入切碎槽內。
- 如果刀組卡住，請先拔掉插頭，再將卡住刀片的食材取出。

警告

- 開啟產品電源前，請務必確認蓋子已妥善組裝在切碎槽上。

- 如果食材黏附在切碎槽的壁面，請將電源關閉，並拔除插頭，然後用刮刀將食材刮下。

濾網 (限 HR2168/HR2167)

警告

- 切勿使用濾網處理溫度超過 80° C 的食材。
- 請勿超過濾網的負荷。濾網的盛裝量不可超過金屬部分。
- 請隨時注意：在您開啟電源前，請先確定已妥善蓋好/裝好蓋子，也確實將量杯插入蓋中。
- 請先將水果切成小塊後再放入濾網。
- 乾燥的食材，如黃豆，在放入濾網前先經過浸泡。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。只要使用方式正確並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

內置安全鎖

這項功能可確保只有在果汁壺及蓋子、研磨機容器或切碎碗槽及蓋子 (僅限特定機型) 正確組裝在馬達座上後，才能開啟產品電源。如果果汁壺及蓋子、研磨機容器、或切碎碗槽及蓋子組裝正確，內置安全鎖即自動解除。

馬達電路保護裝置

本產品配有馬達電路保護裝置，當馬達卡住時 (在處理大量食材或沒有依照使用手冊中的說明使用本產品時，可能會發生這種情況)，會自動關閉馬達。若發生這種情況，請先關閉本產品電源並拔下插頭，待產品溫度降低至室溫。然後再檢查您處理的食材是否超過使用手冊所述數量，或者刀組是否被卡住。

第一次使用前

第一次使用本產品前，請先徹底清潔會接觸食物的機身部分 (請參閱「清潔」單元)。

使用此產品

果汁機

► 攪拌機的用途：

- 攪拌液體，例如乳製品、醬汁、果汁、湯、混合飲料、奶昔等。
- 攪拌軟質食材，例如煎餅糊或美乃滋。
- 攪爛煮熟的食材，例如製作嬰兒食品。

準備使用果汁機

- 1** 依順時針方向，將攪拌杯刀組旋緊到果汁壺上。(圖 2)
- 2** 將裝好刀組的果汁壺接到馬達座上，再依照順時針方向轉動，至鎖入定位為止。(圖 3)
- 3** 將材料放入果汁壺。
先讓熱食材冷卻，再放入攪拌杯 (最高溫度 80° C/175° F)。
- 4** 限 2170：將蓋子固定到果汁壺的方法 - 先下壓 (1) 再以順時針方向旋轉 (2)。(圖 4)

注意：確定蓋子所附篩網的位置是在壺嘴前方，以便能將液體倒出。

- 5** 限 HR2168/HR2167/HR2161/HR2160：蓋上蓋子。

- 6** 將量杯插入蓋中。(圖 5)

注意：若要拆卸果汁機，請依相反順序與方向，執行上述說明。

使用果汁機

攪拌機轉動時，切勿將手指或其他物件（例如橡皮刮刀等）伸進果汁壺中。

容量不得超過攪拌杯的最高容量刻度。

1 將電源插頭插入牆上插座。

2 開啟產品。（圖 6）

注意：有關建議的用量、速度調整位置及處理時間，請參閱本使用手冊最後的「果汁機」表格。

- 如果要以特定速度處理食材，請將控制鈕轉到想要的速度設定。

本產品運轉時間一次不可超過 2 分鐘。請先讓本產品冷卻至室溫，然後再繼續進行處理。

- 如果要非常快速處理食材，請將控制鈕轉到瞬間開關 (P) 數次。

瞬間開關一次不可使用超過數秒時間。

- 如果要碎冰，請按下 ICE (碎冰鈕)。

3 完成處理後，請將控制撥鈕轉到「0」，並拔除電源插頭。

開啟蓋子前，請務必將控制鈕轉到「0」。

提示

- 為了避免溢出，攪拌杯內不可倒入超過 1.5 公升的液體，特別是以高速處理時。當處理高溫液體或會產生泡沫的食材時，放入攪拌杯內的食材不可超過 1 公升。

- 產品運轉時，您可以利用蓋子的開口加入食材。（圖 7）

- 乾燥食材的處理時間請勿超過 1 分鐘。

- 先將固體食材切成小塊狀，再放入攪拌杯裡。請勿一次處理大量的固體食材；請改以少量多次的方式來進行處理。

- 固體食材經過攪打之後，若尚未達到滿意的效果，請按壓幾次瞬間開關，讓果汁機短促運轉。如果您想使用刮刀，請先關閉本產品，再打開蓋子攪拌食材。您也可以取出壺中的某些食材，分小量處理。

- 若要打碎冰塊，壺中最多一次可放 5 個冰塊，然後按下 ICE (碎冰鈕) 數次。

限 HR2170：果汁壺是以玻璃製成，因此屬於易碎品。請避免果汁壺掉落到硬質的地板上，此外也須避免過於激烈的溫度變化。如果果汁壺很冰，倒入高溫液體之前，先以溫水沖淋一番。玻璃果汁壺若出現裂痕，請停止使用。

濾網 (限 HR2168/HR2167)

濾網附件可以用來攪打出特別綿密的醬料，新鮮果汁或雞尾酒。核籽和果皮都會完全留在濾網中。

HR2170/HR2160：您可以向飛利浦經銷商訂購濾網（型號 HR2963）。

濾網的盛裝量不可超過金屬部分。

不可用本濾網處理熱的食材。

準備使用濾網

1 將攪拌杯組裝到馬達座上（請見本章節中的「準備使用果汁機」單元）。

2 將濾網放入果汁壺中。（圖 8）

確定濾網妥善安裝在攪拌杯的底部。

濾網的溝槽和攪拌杯內的起伏紋路可方便您將濾網放在正確位置。

3 蓋上蓋子。

使用濾網

1 從蓋子的開口將食材放入濾網中。

以濾網處理食材之前，如為水果，請先切成小塊，乾貨例如黃豆等則須事先浸泡。

2 加入水或其他的液體。

3 將量杯插入蓋中，再把控制鈕調到最高速度，讓果汁機運轉最多約 40 秒。

4 將控制鈕轉到「0」，從馬達座拆下攪拌杯。

5 從攪拌杯的杯口倒出飲料。(圖 9)

確定蓋子已蓋上，量杯也在蓋子內，如此可避免飲料之中殘留核籽和果皮。

6 為達最佳效果，請不要打開/取下蓋子，並將盛裝其餘食材的果汁壺放回產品上，再多打幾秒鐘。

7 這時即可將其餘的飲料倒出。

8 完成處理後，請將控制撥鈕轉到「0」，並拔除電源插頭。

提示

- 請注意，當您處理大量食材時，我們建議不要將所有的食材一次放入濾網內。一開始先處理少量的食材，並讓果汁機運轉幾秒鐘，之後關閉果汁機電源，再另外加入少量的食材。重複這個步驟直到您處理完所有食材為止。在處理期間，果汁壺一定要蓋上蓋子。
- 製作果汁或鷄尾酒時，為達到最佳效果，150 公克的水果約搭配 300 毫升的水。您也可以使用其他液體，例如製作鷄尾酒。
- 如果要打蕃茄汁，請將蕃茄切成四等份，再從蓋子開口將切塊的蕃茄投入轉動的刀片中。

研磨機 (限 HR2168/HR2167/HR2161)

您可以使用研磨機，研磨或切碎胡椒粒、芝麻、米、小麥、椰肉、(去殼) 堅果、咖啡豆、大豆、豌豆乾、起司、麵包粉等材料。

攪拌丁香、大茴香與洋茴香時，務必加入其他食材。如果單獨處理，這些香料對本電器的塑膠材料會有不好的影響。

研磨機不適合用來切削太硬的食材，例如肉豆蔻與冰塊。

容量不得超過研磨機容器的最高容量刻度。

準備使用研磨機

1 將食材放入研磨機的容器中。(圖 10)

注意：有關建議的用量及處理時間，請參閱本使用手冊最後的「研磨機」表格。

2 將研磨機的刀組以順時針方向鎖到研磨機的容器上。(圖 11)

3 將組裝好的研磨機上下倒置，再以順時針方向鎖到馬達座上。(圖 12)

使用研磨機

1 開啟產品。

建議使用瞬間開關，或將速度調整位置調到 5。

研磨機的連續操作時間不可超過 30 秒。

2 完成處理後，請將控制撥鈕轉到「0」，並拔除電源插頭。

3 如果要從馬達座拆下研磨機，請以逆時針旋轉研磨機。

切碎機 (限 HR2168)

您可以使用切碎機，切碎洋蔥、肉類、藥草、蔬菜、水果、巧克力、堅硬起絲、嬰兒食品與堅果等材料。

HR2170/HR2161/HR2160：您可以向飛利浦經銷商訂購切碎機 (型號 HR2965)。

請勿使用切碎機混合液體。如果要混合液體，請使用果汁機。

- 1** 將切碎機的組合座插入攪拌槽底部 (1)。逆時針旋轉組合座將其固定 (2)。(圖 13)
- 2** 將攪拌槽 (1) 放在馬達座上，然後順時針旋轉將其固定 (2)。(圖 14)
- 3** 將切碎機刀組置於攪拌槽中。(圖 15)
- 4** 將食材放入攪拌槽。(圖 16)

注意：有關建議的用量及處理時間，請參閱本使用手冊最後的「切碎機」表格。

請勿超過表格中註明的最大用量。

提示：預先將大塊食材都切成 1 到 2 公分的小塊。

- 5** 蓋上攪拌槽的蓋子 (1)，以順時針方向旋轉，固定蓋子 (2)。(圖 17)

注意：開啟產品電源前，請確認蓋子已妥善蓋好。

- 6** 開啟產品。

注意：如果產品因食物不平均分布而搖晃，請將手放在蓋子上。

注意：切碎機在幾秒內便會完成切碎工作。因此運轉時間請勿太長。

- 7** 完成處理後，請將控制撥鈕轉到「0」，並拔除電源插頭。

- 8** 逆時針旋轉攪拌槽，(1) 將其從馬達座拆下 (2)。(圖 18)

- 9** 以順時針方向轉動組合座 (1)，然後從攪拌槽上取下 (2)。(圖 19)

- 10** 從攪拌槽上取下蓋子及刀組。

刀組的刀鋒部位相當銳利，因此處理刀組時請格外小心。

- 11** 倒出攪拌槽內的食材。

倒空攪拌槽前，請務必從攪拌槽取下刀組，並從馬達座取下切碎機。

清潔 (圖 20)

絕對不可使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。

- 1** 關閉產品電源並拔掉插頭。

- 2** 凡是卸除式零件，請先拆下之後再清潔。

- 3** 清洗產品不同部位的零件時，請按照清潔表格上的指示操作。

提示：

- 電器與附件於使用過後立即清潔，是最為便利的作法。
- 如有必要，您可以使用很軟的刷子清潔濾網的細網部分。

快速清潔果汁壺

- 1** 在果汁機中倒入半滿的溫水，再加幾滴洗碗精。

- 2** 將控制鈕旋轉到瞬間開關數次。

- 3** 把果汁壺拆下，倒空，拿到水龍頭下沖洗。

收納

- 1** 如果要收藏主電線，請將電線推入底座中的電線收納格。(圖 21)
- 2** 請將本產品放置在安全、乾燥的地方。

環境保護

- 本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。(圖 22)

保固與服務

若您需要相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.philips.com，或聯絡當地的飛利浦顧客服務中心(電話號碼可參閱全球保證書)。若您當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

食譜

如需更多食譜，請瀏覽我們的網站：www.philips.com/kitchen。

嬰兒食物

食材

- 煮熟的鷄肉 250 克
- 煮熟的馬鈴薯 250 克
- 煮熟的綠豆 250 克
- 牛奶 450 毫升

- 1** 將果汁壺裝到馬達座上(請參閱「使用此電器」章節)。
- 2** 預先將食材都切成 2x2x2 公分的塊狀。
- 3** 將材料放入果汁壺。
- 4** 攪拌食材 25 秒(如需更細緻的口感，可以攪拌更久)。

注意：若您要準備的食物份量很多，請讓本產品冷卻至室溫，然後再繼續處理下一批食材。

豆漿

食材

- 180 公克黃豆(先浸泡過)
- 500 毫升的溫水

- 1** 先將黃豆於清水中浸泡至少 4 小時，直到黃豆變軟為止。
- 2** 將浸泡過的黃豆，加上 500 毫升的溫水，於果汁機中攪拌約 60 秒，直到黃豆漿呈滑順的液體狀為止。

注意：若您要準備的食物份量很多，請讓本產品冷卻至室溫，然後再繼續處理下一批食材。

五香粉

食材

- 2 公克洋茴香
- 2 公克大茴香
- 2 公克肉桂
- 2 公克丁香
- 2 公克甘草

1 將所有食材放入研磨機的容器中。

2 研磨約 30 秒。

注意：若您要準備的食物份量很多，請讓本產品冷卻至室溫，然後再繼續處理下一批食材。

馬散麻咖哩

食材

- 20 公克青蔥
- 15 公克大蒜
- 7 公克南薑
- 9 公克檸檬草
- 2 公克丁香
- 1 大匙芫荽籽
- 1 大匙孜然
- 3 條乾紅辣椒
- 5 顆胡椒粒
- 1 大匙蝦醬
- 1 大匙鹽

1 將南薑切片，每片約為 1 公分。

2 將所有食材放入研磨機的容器中。

3 研磨約 30 秒。

注意：若您要準備的食物份量很多，請讓本產品冷卻至室溫，然後再繼續處理下一批食材。

辣椒醬

食材

- 20 公克新鮮紅辣椒
- 30 公克青蔥
- 2 瓣大蒜

1 將辣椒和青蔥切成可放進攪拌槽的長度。

2 將辣椒、青蔥和大蒜全部放進攪拌槽。

3 切剁約 30 秒。

注意：若您要準備的食物份量很多，請讓本產品冷卻至室溫，然後再繼續處理下一批食材。

常見問題集

如果本產品無法運作，或者無法正常運作，請先檢查下表所列的項目，或瀏覽飛利浦網站 www.philips.com/welcome。如果問題並非表中或網路上所列的項目，表示您的產品可能有問題。若是這種情況，建議您將產品交由經銷商或飛利浦授權服務中心處理。

問題	解答
機器為何無法運轉？	本產品備有安全系統。若果汁壺及蓋子、攪拌槽及蓋子(限特定機型)，或研磨機容器(限特定機型)未正確組裝在馬達座上或完全未組裝，本產品則無法運作。請檢查您是否已組裝果汁壺及蓋子、攪拌槽及蓋子，或研磨機容器(請參閱本使用手冊中的各個章節)。請先將控制鈕轉到「0」。
可以將所有可拆卸的零件放入洗碗機中清洗嗎？	可以，除了馬達座與攪拌槽的組合座(限特定機型)以外。
「Pulse 瞬間」是什麼意思？	若將控制鈕旋轉到瞬間開關，只要控制鈕維持在這個位置，果汁機就會一直以最高速度運轉。如果要更能掌握處理過程，請利用瞬間開關。
可以將滾燙的液體倒入果汁壺內嗎？	不可以，請讓熱液體冷卻到 80° C/175° F，避免損壞攪拌杯。
為什麼運轉時馬達會發出異味？	新產品在第一次使用時會發出臭味或稍微冒煙，這是很常見的現象，在使用幾次之後這種現象就會停止。如果連續使用產品過久，也會發出臭味或冒煙，這時候您將控制鈕設定到「0」，並讓產品冷卻 60 分鐘。
果汁機因為刀組卡住而停止運轉，這時應該怎麼辦？	將控制鈕設定到「0」，並使用抹刀刮除卡住刀組的食材。我們也建議您一次處理小量食材。
為什麼果汁或豆漿中含有許多核籽和果皮？	為了避免飲料中殘留核籽和果皮，攪打之前，果汁壺中務必妥善裝好濾網(限特定機型)，蓋子務必蓋上，且量杯已插入蓋中。
果汁壺滲漏，這時應該怎麼辦？	將控制鈕轉到「0」，倒出食材。確認已將密封環放在刀組上，並確定已正確組裝刀組。

产品简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

本产品配备内置安全系统，可防止产品在附件安装不正确或没有安装附件的情况下运转。

一般说明 (图 1)

- 1** 带控制旋钮的马达装置
- 2** 脉冲设置
- 3** 可调速度装置
- 4** 碎冰按钮
- 5** 塑料搅拌杯刀片组件
- 6** 塑料搅拌杯 (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)
- 7** 水位标记
- 8** 塑料搅拌杯盖
- 9** 搅拌杯上盖设加料口
- 10** 量杯
- 11** 过滤网（仅限于 HR2168/HR2167）
- 12** 玻璃搅拌杯刀片组件
- 13** 玻璃搅拌杯（仅限于 HR2170）
- 14** 水位标记
- 15** 玻璃搅拌杯盖
- 16** 搅拌杯上盖设加料口
- 17** 量杯
- 18** 驱合装置
- 19** 切碎器加工杯（仅限于 HR2168）
- 20** 切碎器刀片组件
- 21** 切碎器盖
- 22** 碾磨器刀片组件
- 23** 碾磨杯（仅限于 HR2168/HR2167/HR2161）

注意事项

使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

概述

危险

- 切勿将马达浸入水或其他液体中，也不要在自来水下冲洗。只能用湿布擦洗马达装置。

警告

- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 如果插头、电源线或其它部件受损，则不要使用产品。
- 切勿通过搅拌杯、碾磨杯（仅限于特定型号）或切碎器加工杯（仅限于特定型号）来关闭或打开设备的电源。
- 切勿让产品在无人看管的情况下运行。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍该产品。
- 请勿触摸刀片，特别是产品插在电源上时。刀片非常锋利。

注意

- 在拆、装或调校产品的任何部件之前，务必拔下电源插头。
- 切勿使用其它制造商生产的或未经飞利浦特别推荐的附件或部件。如果您使用了此类附件或部件，则本产品的保修将会失效。
- 不要超出搅拌杯、碾磨杯（仅限于特定型号）或切碎器加工杯（仅限于特定型号）上的最大刻度。
- 不要超出相关表中所示的最大份量和加工时间。
- 只有在搅拌杯、碾磨杯（仅限于特定型号）或切碎器加工杯（仅限于特定型号）都已正确安装在马达装置上后，才能打开产品电源。

搅拌机**警告**

- 在产品运转时，切勿将手指或其它物体伸入搅拌杯中。
- 将搅拌杯装在马达装置上之前，请确保刀片组件已牢牢固定在搅拌杯上。
- 清洗时切勿接触搅拌杯刀片组件的刀刃。刀刃非常锋利，很容易割伤手指。
- 如果刀片组件被卡住，请先拔下电源插头，然后清除堵塞刀片的原料。

注意

- 切勿将温度超过 80°C 的物料装入搅拌杯。
- 为避免物料溢出，搅拌杯中的液体不能超过 1.5 升，特别是高速加工时。加工热液体或可能产生泡沫的物料时，搅拌杯中的物料不能超过 1 升。
- 如果食物粘在搅拌杯壁上，请关闭产品并拔下产品电源。然后使用刮铲去除杯壁上的食物。
- 在打开产品电源之前，应始终确保杯盖已正确关闭/安装在搅拌杯上，量杯也正确插入盖子中。
- 仅限于 HR2170：搅拌杯用玻璃制成，因此容易打破。不要让搅拌杯掉在硬地板上。还要避免过度的热冲击。如果搅拌杯太冷，则先用温水进行适当冲洗，再倒入热的液体。如果玻璃杯有裂缝，请停止使用。

碾磨杯（仅限于 HR2168/HR2167/HR2161）**警告**

- 将搅拌杯装在马达装置上之前，请确保刀片组件已牢牢固定在碾磨杯上。
- 使用或清洗时切勿接触碾磨器刀片组件的刀刃。刀刃非常锋利，很容易割伤手指。
- 切勿用碾磨器碾碎非常硬的原料，如肉豆蔻、冰块等。

注意

- 碾磨器不得连续使用 30 秒以上。在加工 30 秒后，需要冷却至室温方可继续加工。
- 丁香、八角茴香和茴香籽必须和别的物料一起加工。否则可能会磨损产品的塑料材料。
- 加工丁香、茴香和肉桂这些原料时，碾磨器烧杯可能会变色。
- 碾磨器不适于切碎生肉，而应使用搅拌器或切碎器。
- 不要用碾磨器加工液体，例如果汁。

切碎器（仅限于 HR2168）**警告**

- 将切碎器装在马达装置上之前，请确保耦合装置已牢牢固定在切碎器加工杯上。
- 使用或清洗时切勿接触切碎器刀片组件的刀刃。刀刃非常锋利，很容易割伤手指。
- 在产品运转时，切勿将手指或其它物体伸入切碎器加工杯中。
- 如果刀片组件被卡住，请先拔下电源插头，然后清除堵塞刀片的原料。

注意

- 在打开产品的电源之前，应始终确保杯盖已正确安装在切碎器加工杯上。
- 如果食物粘在切碎器加工杯壁上，请关闭产品并拔下产品电源。然后使用刮铲去除杯壁上的食物。

过滤网（仅限于 HR2168/HR2167）

注意

- 切勿用过滤网加工温度高于 80° C 的原料。
- 切勿将过量的物料装入过滤网中。不要在过滤网上倒入超过其金属部分的物料。
- 在打开产品电源之前，应始终确保搅拌杯盖子正确关闭/安装，并且量杯已正确插入盖子中。
- 水果在放入过滤网之前，需切成小块。
- 干物料在装入过滤网之前，必须先泡软，如大豆。

电磁场 (EMF)

这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

内置安全锁

此功能可确保只有在搅拌杯和盖、研磨杯或切碎器加工杯和盖（仅限特定型号）正确安装在马达装置上，才可以打开产品。如果搅拌杯和盖、研磨杯或切碎器加工杯和盖安装正确，则内置安全锁将被解锁。

马达电路保护装置

产品配有马达电路保护装置，当马达堵塞时（加工负荷太重或未按照用户手册中的说明使用产品时）它会自动关熄马达。如果发生这种情况，应先关闭产品并断开电源，让产品冷却至室温。然后检查所加工物料的量是否未超过用户手册中指明的量，或刀片组件是否被堵塞。

初次使用之前

在初次使用产品之前，请彻底清洗与食品接触的部件（参见“清洁”一章）。

使用本产品

搅拌机

此搅拌机适用于：

- 混合液体，如奶制品、调料、果汁、汤、混合饮料、鸡尾酒等。
- 混合软质材料，如薄饼面糊或蛋黄酱。
- 搅拌煮熟的浓汤，如制作婴儿食品。

搅拌机使用准备

- 1** 将搅拌杯刀片组件朝顺时针方向旋转到搅拌杯上。（图 2）
- 2** 安装搅拌杯，使刀片组件连接至马达装置，然后朝顺时针方向转动，直至锁定到位。（图 3）
- 3** 将物料放入搅拌杯。
须待热的物料冷却后（最高温度 80° C/175° F），方可将它们放入搅拌杯加工。
- 4** 仅限于 HR2170：按下搅拌杯的盖子 (1) 并顺时针旋转 (2) 以将其固定。（图 4）
注意：确保盖中的滤网位于搅拌杯的杯嘴前方，以便能够倒出液体。
- 5** 仅限于 HR2168/HR2167/HR2161/HR2160：盖上盖子。
- 6** 将量杯插入到盖子内。（图 5）
注意：要拆开搅拌机，请按照上述说明以相反顺序和方向进行操作。

使用搅拌机

当搅拌机运转时，切勿将手指或其它物体（如铲子）伸入搅拌杯内。

不要超出搅拌杯上所标注的最大刻度。

1 将电源插头插入插座。

2 启动产品。 (图 6)

注意：请参见本用户手册末尾的搅拌机表格，选择建议的份量、速度设置和加工时间。

- 要按特定速度加工原料，请将控制钮转动到所需的速度设置。

请勿让产品一次运转超过 2 分钟。应让产品冷却至室温再继续加工。

- 要快速处理原料，请将控制钮转动到脉冲设置 (P) 数次。

每次使用脉冲设置切勿超过几秒钟。

- 要粉碎冰块，请按碎冰按钮。

3 加工完成之后，将控制钮设为 0，然后拔掉产品的电源插头。

打开盖子之前，务必将控制钮设定到 0。

提示

- 为避免物料溢出，搅拌杯中的液体不能超过 1.5 升，特别是高速加工时。加工热液体或可能产生泡沫的物料时，搅拌杯中的物料不能超过 1 升。
- 当产品运转时，可以通过盖子的开口加料。 (图 7)
- 加工干的物料不要超过 1 分钟。
- 将固体物料放入搅拌杯之前，应先将它们切成小块。不要一次加工大量固体物料。大量固体物料应分成多次进行加工。
- 如果您对固体物料的搅拌效果不满意，可使用脉冲设置数次，让搅拌机短暂运转。如果需要使用刮铲，请关闭产品电源，打开盖子，然后搅动物料。您也可以从搅拌杯中取出部分物料，从而对较少的量进行处理。
- 要压碎冰块，请在搅拌杯内每次最多放入 5 块冰块，然后按几次 ICE 碎冰按钮。

仅限于 HR2170：搅拌杯用玻璃制成，因此容易打破。不要让搅拌杯掉在硬地板上。还要避免过度的热冲击。如果搅拌杯太冷，则先用温水进行适当冲洗，再倒入热的液体。如果玻璃杯有裂缝，请停止使用。

过滤网（仅限于 HR2168/HR2167）

使用过滤网可制作格外精细的混合调味汁、新鲜果汁或鸡尾酒。所有的籽和皮都可通过滤网去除。

HR2170/HR2160：您可以从飞利浦经销商处订购滤网（型号 HR2963）。

不要在过滤网上倒入超过其金属部分的物料。

请勿使用过滤网加工热的物料。

过滤网使用准备

1 将搅拌杯安装到马达装置上（请参见本章中的“搅拌机使用准备”部分）。

2 将过滤网放入搅拌杯。 (图 8)

确保过滤网正确放置在搅拌杯的底部。

过滤网的凹口和搅拌杯内的凸缘有助于将过滤网固定到位。

3 合上盖子。

使用过滤网

1 通过盖子上的开口将物料放入过滤网。

将水果放入过滤网进行加工之前，应切成小块；干原料（如大豆）应先泡软。

2 加入水或其它液体。

3 将量杯放入盖子内，将控制旋钮设定至最高速度，让搅拌机运转最多 40 秒。

4 将控制钮设定到 0，然后从马达装置上取下搅拌杯。

5 通过搅拌杯的杯嘴倒出饮料。（图 9）

请确保盖子已合上，且量杯在盖内。这能防止果渣和果皮混入饮料中。

6 要获得最佳效果，可将含有剩余原料的搅拌杯重新放回到产品上而不要打开/取下盖子，让其再运转数秒钟。

7 倒出剩余的饮料。

8 加工完成之后，将控制钮设为 0，然后拔掉产品的电源插头。

提示

- 加工大量原料时，建议您不要一次放入全部原料。首先加工一小部分原料，让产品运转几秒钟，然后关闭产品，再加入一小部分原料。重复这一过程，直至加工完所有的原料。加工过程中盖子应始终盖在搅拌杯上。
- 在做果汁和鸡尾酒时，要获得最佳效果，可在 150 克水果中加入大约 300 毫升水。如果是做鸡尾酒等，则还可以加入其它液体。
- 做蕃茄汁时，先将蕃茄切成四瓣，然后通过盖上的开口将蕃茄瓣放到旋转刀片上。

碾磨杯（仅限于 HR2168/HR2167/HR2161）

您可以使用碾磨器碾磨和切削干胡椒、芝麻、大米、小麦、椰子肉、坚果（去壳）、咖啡豆、大豆、干豌豆、干酪、面包屑等原料。

丁香、八角茴香和茴香籽必须和别的物料一起加工。否则可能会磨损产品的塑料材料。

碾磨器不适合粉碎非常坚硬的物料，如肉豆蔻和冰块。

不要超出碾磨杯上所标注的最大刻度。

碾磨器使用准备

1 将物料放入碾磨杯。（图 10）

注意：请参见本用户手册末尾的碾磨器表格，选择建议的份量和加工时间。

2 将碾磨器刀片组件顺时针拧到碾磨杯上。（图 11）

3 将安装好的碾磨器翻转过来，顺时针拧到马达装置上。（图 12）

使用碾磨器

1 启动产品。

建议您使用脉冲设置或速度设置 5。

切勿让碾磨器持续操作超过 30 秒钟。

2 加工完成之后，将控制钮设为 0，然后拔掉产品的电源插头。

3 要从马达装置上取下研磨器，可以逆时针转动研磨器。

切碎器（仅限于 HR2168）

您可以使用切碎器切碎洋葱、肉、香料、蔬菜、水果、巧克力、干酪、婴儿食物和坚果等原料。

HR2170/HR2161/HR2160：您可以从飞利浦经销商处订购切碎器（型号 HR2965）。

不要用切碎器混合液体。请使用搅拌杯。

1 将切碎器的耦合装置插入切碎器加工杯的底部(1)。逆时针转动耦合装置以固定(2)。（图 13）

2 将切碎器加工杯(1)放到马达装置上并且顺时针转动以固定(2)。（图 14）

3 把切碎器刀片组件放入切碎器加工杯。（图 15）

4 将原料倒入切碎器加工杯。（图 16）

注意：请参见本用户手册末尾的切碎器表格，选择建议的份量和加工时间。

不要超出表中所示的最大份量。

提示：预先将大块食物切成 1-2 厘米见方。

5 用盖子盖住切碎器加工杯(1)并且顺时针转动以固定(2)。（图 17）

注意：在打开产品电源之前，应确保杯盖已正确固定。

6 启动产品。

注意：如果产品摇晃，则说明食品分布不均，用手按在盖子上。

注意：切碎器几秒钟即可完成工作。每次运行切勿超过几秒钟。

7 加工完成之后，将控制钮设为 0，然后拔掉产品的电源插头。

8 逆时针方向转动切碎器加工杯(1)并将其从马达装置上取下(2)。（图 18）

9 顺时针方向转动耦合装置(1)并从切碎器加工杯底部取下(2)。（图 19）

10 从切碎器加工杯中取下盖子和刀片组件。

处理刀片组件时要多加小心，刀片组件的刀刃很锋利。

11 倒空切碎器加工杯。

在倒空切碎器加工杯之前，务必从切碎器加工杯上取下刀片组件，从马达装置上取下切碎器。

清洁 (图 20)

不要使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

1 关闭产品电源并拔出电源插头。

2 先拆下所有可拆卸部件，再进行清洗。

3 根据清洁表中的说明，清洁产品的各个部件。

使用提示：

- 使用后立即清洗产品及其部件最为容易。

- 如有必要，请使用软刷清洗滤网。

快速清洗搅拌杯

1 在搅拌机中装入一半温水，再加入数滴洗涤剂。

2 将控制旋钮旋至脉冲设置数次。

- 3** 拆下搅拌杯，将其中的水全部倒出，然后在水龙头下冲洗。

存储

- 1** 要存放电源线，请将其推入底座的电线储藏格中。（图 21）
2 将本品存放在安全干燥的地方。

环境

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。（图 22）

保修与服务

如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。您也可与您所在地的飞利浦顾客服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦顾客服务中心，则可以与当地的飞利浦经销商联系。

食谱

要获取更多食谱，请访问我们的网站 www.philips.com/kitchen。

婴儿食物

原料

- 250 克熟鸡肉
- 250 克煮熟的土豆
- 250 克煮熟的绿豆
- 450 毫升牛奶

- 1** 将搅拌杯组装到马达装置上（请参阅“使用本产品”一节）。
2 将原料预先切成 2x2x2cm 见方的小块。
3 将原料放入搅拌杯。
4 将原料搅拌 25 秒钟（或更长时间以达到更细腻的效果）。

注意： 如果要准备份量更多的材料，请先让产品冷却到室温，然后再加工下一批原料。

豆浆

原料

- 180 克黄豆（泡发）
- 500 毫升温水

- 1** 用清水浸泡大豆至少 4 个小时，直到豆子变软。
2 在搅拌机中放入 500 毫升温水，加工泡好的黄豆大约 60 秒，直到获得柔滑的液体。

注意： 如果要准备份量更多的材料，请先让产品冷却到室温，然后再加工下一批原料。

五香粉

原料

- 2 克茴香
- 2 克八角
- 2 克肉桂
- 2 克丁香
- 2 克甘草

- 1** 将所有原料放入碾磨杯。

2 碾磨原料 30 秒钟。

注意：如果要准备份量更多的材料，请先让产品冷却到室温，然后再加工下一批原料。

泰式马散麻

原料

- 20 克葱
- 15 克大蒜
- 7 克沙姜
- 9 克柠檬香草
- 2 片丁香叶
- 1 汤匙芫荽籽
- 1 汤匙孜然籽
- 3 颗干红辣椒
- 5 颗花椒
- 1 汤匙虾酱
- 1 汤匙盐

1 将沙姜切成 1 厘米见方的小片。**2 将所有原料放入碾磨杯。****3 碾磨原料 30 秒钟。**

注意：如果要准备份量更多的材料，请先让产品冷却到室温，然后再加工下一批原料。

泰式辣椒酱

原料

- 20 克鲜红辣椒
- 30 克葱
- 2 个蒜瓣

1 将辣椒和葱切成可放入切碎器加工杯的大块。**2 将辣椒、葱和蒜瓣放入切碎器加工杯中。****3 切碎原料 30 秒钟。**

注意：如果要准备份量更多的材料，请先让产品冷却到室温，然后再加工下一批原料。

常见问题

如果产品不能工作或无法正常工作, 请先检查下面的列表或访问飞利浦网站 www.philips.com/welcome。如果该列表中或网站上未提及您遇到的问题, 则产品可能存在瑕疵。在此情况下, 建议您将产品送往经销商处或经授权的飞利浦服务中心。

问题	回答
为何产品无法正常工作?	本产品配备有安全系统。如果带盖的搅拌杯、带盖的切碎器加工杯（仅限于特定型号）或研磨杯（仅限于特定型号）未正确组装到马达装置上, 或者根本没有组装, 那么本产品将不会工作。检查是否正确组装了带盖的搅拌杯、带盖的切碎器加工杯或研磨杯（请参阅本用户手册中的各个章节）。先将控制旋钮设置在 0 位置。
我能用洗碗机清洗所有可拆卸部件吗?	可以, 马达装置以及切碎器的耦合装置（仅限于特定型号）除外。
“暂动”是什么意思?	当您将控制钮设定至脉冲设置时, 产品将以最高速度运转。如果您想更有效地控制加工工作, 建议使用脉冲设置。
搅拌杯中可否灌入沸腾的热液体?	不能, 须待热液体冷却至 80° C/175° F, 以避免损坏搅拌杯。
在加工期间, 马达为什么会发出异味?	在最初的几次使用中, 新产品会散发出异味或者冒烟, 都是很常见的。使用几次之后就不会出现这种现象了。产品使用时间过长也会散发出异味或冒烟。此时必须将控制钮设定为 0, 让产品冷却 60 分钟。
产品由于刀片组件被阻塞而停止运转, 这时我该怎么办?	将控制钮设定为 0, 用刮铲刮掉阻塞刀片部件的原料。还建议您减少加工量。
果汁或豆奶为什么含有大量果渣或果皮?	为防止果渣和果皮混入饮料中, 请确保将过滤网（仅限特定型号）正确放入杯中, 关闭盖子并且将量杯插入盖子里。
搅拌杯渗漏, 我该怎么办?	将控制钮设定为 0, 倒出原料。确保密封圈正确放置在刀片组件上。还请确保刀片组件安装正确。

الإجابة

السؤال

هل يمكنني صب السوائل الساخنة المغلية في وعاء الخلط.

لا، لكن اتركي السوائل الساخنة لتبرد حتى ٨٠ درجة مئوية/ ١٧٥ درجة فهرنهايت لتجنب تلف الوعاء. من الطبيعي أن تصدر رائحة كريهة أو ينبعث بعض الدخان من الجهاز الجديد عند استخدامه لأول مرة. تختفي هذه الظاهرة بعد استخدامك للجهاز لعدة مرات. ربما يصدر من الجهاز أيضًا رائحة كريهة أو ينبعث منه بعض الدخان بعد استخدامه لمدة طويلة زيادة عن المسموح به، في هذه الحالة، أضيّطي مفتاح التحكم على الإعداد (٠) واتركي الجهاز لمدة ٦٠ دقيقة حتى يبرد.

لماذا تبتعد عن العمل بسبب رائحة كريهة أثناء عملية التحضير؟
لماذا تبتعد عن العمل بسبب إعاقة وحدة الشفرات، ماداً ينبع على أن أفعل؟

لتجنب احتواء المشروب الخاص بك على لب وقشور، تأكدي من تركيب المصفاة بالشكل الملائم (طرز معينة فقط) في الوعاء أو لбин فول الصويا على الكثير وغلق الغطاء وإدخال كأس المعايرة في الخطاء. من نقاط الفاكهة المعصورة أو القشر؟

يوجد تسرب في وعاء الخلط، ماداً ينبغي على أن أفعل؟
أضيّطي مفتاح التحكم على ٠ ووصبى المكونات، تأكدي من تركيب مانع التسرب الحلقي على وحدة الشفرات بالشكل الملائم. وتأكدي أيضًا من تركيب وحدة الشفرات بالشكل الصحيح.

٤ اطحني المكونات لمدة ٣٠ ثانية.

ملاحظة: إذا كنت ترغبين في تحضير كمية أكبر، التركي الجهاز ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل تحضير المقدار التالي من المكونات.

الكاربي تايبلاندي

المكونات	-
٢٠ جرام كرات أندلسي	-
١٥ جرام ثوم	-
٧ جرام خولنجان	-
٩ جرام أوراق ليمون	-
٢ فص ثوم	-
١ ملعقة صغيرة بذور كزبيرة	-
١ ملعقة صغيرة بذور كمون	-
٣ حبات فلفل أحمر مجففة	-
٥ حبات فلفل	-
١ ملعقة صغيرة معجون روبيان	-
١ ملعقة صغيرة ملح	-

١ قطعي الخولنجان إلى شرائح كل منها اسم تقريباً.

٢ ضعي جميع المكونات في وعاء المطحنة.

٣ اطحني المكونات لمدة ٣٠ ثانية.

ملاحظة: إذا كنت ترغبين في تحضير كمية أكبر، التركي الجهاز ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل تحضير المقدار التالي من المكونات.

معجون الفلفل الأحمر

المكونات	-
٢٠ جرام فلفل أحمر طازج	-
٣٠ جرام كرات أندلسي	-
٢ فص ثوم	-

١ قطعي الفلفل الأحمر والكراث الأندلسي إلى قطع كبيرة مناسبة لوعاء المفرمة.

٢ ضعي ثمار الفلفل الأحمر والكراث الأندلسي والثوم في وعاء المفرمة.

٣ افرمي المكونات لمدة ٣٠ ثانية.

ملاحظة: إذا كنت ترغبين في تحضير كمية أكبر، التركي الجهاز ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل تحضير المقدار التالي من المكونات.

الأستلة المتركرة دائمًا

إذا لم يعمل الجهاز أو في حال عدم عمله بالشكل الملائم، قومي أولاً بفحص القائمة التالية أو زوري موقع الويب الخاص بشركة Philips على www.philips.com/welcome. إذ لم يرد ذكر مشكلتك في هذه القائمة أو على الإنترنت فقد يكون هناك عطل في الجهاز. ننصحك في هذه الحالة بالتجهيز بالجهاز إلى الموزع التابع لك أو إلى أي مركز صيانة معتمد من Philips.

السؤال

الاجابة

لماذا لا يعمل الجهاز؟

هذا الجهاز مزود بنظام أمان. لا يعمل الجهاز في حال عدم تركيب وعاء الخلط مع الغطاء الخاص به أو وعاء المفرمة مع الغطاء (طرز معينة فقط) أو وعاء المطحنة (طرز معينة فقط) بالشكل الملائم على وحدة المотор أو في حال عدم تركيبها على الإطلاق. تأكلي من تركيب وعاء الخلط مع الغطاء أو وعاء المفرمة مع الغطاء أو وعاء المطحنة مع الغطاء (انظر إلى الأقسام المختلفة في دليل المستخدم لهذا). اضيقي مفتاح التحكم على الإعداد ٠ أو ١.

هل يمكنني تنظيف جميع الأجزاء القابلة للذلة في غسالة الأطباق؟

نعم، لكن باستثناء وحدة المotor ووحدة الاقتران الخاصة بالغطاء (طرز معينة فقط).

ما هو المقصود من كلمة "التبض"؟

عندما تدير مفتاح التحكم على إعداد التبض، يعمل الجهاز على أعلى مستوى سرعة له حتى تحركي المفتاح من هذا الوضع. استخدمي إعداد التبض إذا كنت ترغبين في المزيد من التحكم في وظائف التشغيل.

التخزين

- ١** لتخزين السلك الكهربائي، إدفعيه في حبيرة تخزين السلك الكهربائي الموجودة في القاعدة (شكل ٢١).
- ٢** خزنني الجهاز في مكان آمن وجاف.

البيئة

- لا تخلصي من الجهاز مع المخلفات المنزلية العادبة عند نهاية فترة استخدامه، لكن قومي بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. تساعدين من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة (شكل ٢٢).

الضمان والصيانة

إذا كنت في حاجة إلى الخدمة أو المعلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بشركة Philips على www.philips.com أو اتصلـي بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك (ستجدـين رقم الهاتف الخاص به في كتيب الضمان العالمي). إذا لم يكن هناـك مرـكـز لخدـمة العـملـاء فـي بلدـكـ، توـجـهيـ إـلـىـ موزـعـ أـجهـزةـ Philipsـ المحليـ الـخـاصـ بكـ.

الوصفات

للمزيد من الوصفـاتـ، قـومـيـ بـزـيـارـةـ مـوـقـعـ الوـيـبـ الـخـاصـ بـنـاـ عـلـىـ www.philips.com/kitchen.

طعام الأطفال**المكونات**

- ٢٥٠ جرام لحم دجاج مطبوخ
- ٢٥٠ جرام بطاطس مطبوخة
- ٢٥٠ جرام فاصوليـاـ خـضـرـاءـ مـطـبـوـخـةـ
- ٤٣٠ ملـليـ حـلـبـ

١ تركـيـ وـعـاءـ الخـلاـطـ عـلـىـ وـحـدةـ المـوتـورـ (انـظـريـ قـسـمـ "استـخـدامـ الجـهاـزـ").

٢ قـومـيـ بـتـقطـيعـ المـكـونـاتـ إـلـىـ قـطـعـ صـغـيرـةـ بـأـبعـادـ ٢٠٢٠٢ سـمـ.

٣ ضـعـيـ المـكـونـاتـ فـيـ وـعـاءـ الخـلاـطـ.

٤ قـومـيـ بـخـلـطـ المـكـونـاتـ لـمـدـدـةـ ٢٥ـ ثـانـيـةـ (أـوـ أـكـثـرـ لـلـحـصـولـ عـلـىـ نـتـيـجـةـ أـنـعـمـ).

ملاحظـةـ: إذاـ كـنـتـ تـرـغـيـنـ فـيـ تـحـضـيرـ كـمـيـةـ أـكـبـرـ، اـتـرـكـيـ الجـهاـزـ ليـبـرـدـ حـتـىـ يـصـلـ إـلـىـ درـجـةـ حرـارـةـ الغـرـفـةـ قـبـلـ تحـضـيرـ المـقـدـارـ التـالـيـ منـ المـكـونـاتـ.

حليب الصويا**المكونات**

- ١٨٠ جرام فول صويا (منقوع)
- ٥٠٠ ملـليـ مـاءـ فـاتـرـ

١ انـقـعـيـ فـولـ الصـوـيـاـ فـيـ مـاءـ العـذـبـ لـمـدـدـةـ ٤ـ ساعـاتـ عـلـىـ الأـقـلـ حـتـىـ يـصـبـ لـيـتاـ.

٢ قـومـيـ بـتـحـضـيرـ فـولـ الصـوـيـاـ المـنـقـوعـ معـ ٥٠٠ـ مـلـليـ مـاءـ فـاتـرـ فـيـ الخـلاـطـ لـمـدـدـةـ ٦٠ـ ثـانـيـةـ تـقـرـيـباـ حـتـىـ تـحـصـلـيـ عـلـىـ سـائـلـ لـيـتاـ.

ملاحظـةـ: إذاـ كـنـتـ تـرـغـيـنـ فـيـ تـحـضـيرـ كـمـيـةـ أـكـبـرـ، اـتـرـكـيـ الجـهاـزـ ليـبـرـدـ حـتـىـ يـصـلـ إـلـىـ درـجـةـ حرـارـةـ الغـرـفـةـ قـبـلـ تحـضـيرـ المـقـدـارـ التـالـيـ منـ المـكـونـاتـ.

مسحوق الخمس توابل**المكونات**

- ٢ جرام بذور يانسون
 - ٢ جرام يانسون نجمي
 - ٢ جرام كاسيا صيني
 - ٢ جرام ثوم
 - ٢ جرام عرق سوس صيني
- ١** ضـعـيـ جـمـيـعـ المـكـونـاتـ فـيـ وـعـاءـ المـطـحـنةـ.

يمكنك استخدام المفرمة في فرم المكونات مثل البصل واللحوم والأعشاب والخضار والفاكهة والشيكولاتة والجبن الناشف وطعم الأطفال والبنيد.

HR2170/HR2161/HR2160: يمكنك طلب المفرمة (رقم الطراز HR2965) من موزع أجهزة Philips.

لا تستخدمي المفرمة في خلط السوائل. استخدمي الخلط في هذه الأغراض.

١ أدخلِي وحدة الاقتران الخاصة بالمفرمة في الجزء السفلي من وعاء المفرمة (١). أديري وحدة الاقتران في عكس اتجاه عقارب الساعة لتنبيتها (شكل ١٣).

٢ ركيِّي وعاء المفرمة (١) على وحدة المотор وأديريِه في اتجاه عقارب الساعة لتنبيتها (٢). (شكل ١٤).

٣ ضعي وحدة شفرات المفرمة في وعاء المفرمة (شكل ١٥).

٤ ضعي المكونات في وعاء المفرمة (شكل ١٦).

ملاحظة: انظري جدول الفرم الموضح في نهاية دليل المستخدم للتعرف على المقادير وأوقات التحضير الموصى بها.
لا تتعدي الحدود القصوى للمقادير الموضحة في الجدول.

نصحية: قطعى القطع الكبيرة من الطعام إلى قطع أصغر بمقاس ٢-١ سم.

٥ ضعي الغطاء على وعاء المفرمة (١) وأديريِه في اتجاه عقارب الساعة لتنبيتها (٢) (الشكل ١٧).

ملاحظة: تأكُّلي من تنبيت الغطاء بالشكل الملامٍ قبل تشغيل الجهاز.

٦ شغلي الجهاز.

ملاحظة: إذا كان الجهاز يهتز لعدم توزيع المكونات بداخله بالشكل الملام، ضعي يديك على الجهاز.

ملاحظة: ستقوم المفرمة بالعمل المطلوب في خلال عدة ثوانٍ. لا تركِّها تعمل لأكثر من عدة ثوانٍ.

٧ بعد الانتهاء من التحضير، اضبطي مفتاح التحكم على الإعداد ، وافصلِي التيار الكهربائي عن الجهاز.

٨ أديريِّي وعاء المفرمة في عكس اتجاه عقارب الساعة (١) وفكِّيها من وحدة المotor (٢). (شكل ١٨).

٩ أديريِّي وحدة الاقتران في اتجاه عقارب الساعة (١) وانزعِّيها من قاع وعاء المفرمة (٢) (شكل ١٩).

١٠ انزعِّي الغطاء ووحدة الشفرات من وعاء المفرمة.

انتبهي عند التعامل مع وحدة الشفرات. حيث أن شفرات وحدة الشفرات حادة.

١١ نظفي وعاء المفرمة.

احرصي دائمًا على فك وحدة الشفرات من وعاء المفرمة والمفرمة من وحدة المotor قبل تفريغ وعاء المفرمة.

التنظيف (شكل ٢٠)

لا تستخدمي أدوات الفرك أو مواد التنظيف الكاشطة أو أي سوائل مثل البنزين أو الأسيتون في تنظيف الجهاز.

١ أوفقي تشغيل الجهاز وافصلِّيه عن التيار الكهربائي.

٢ فكي جميع الأجزاء القابلة للفك قبل تنظيفها.

٣ نظفي أجزاء الجهاز المختلفة كما هو موضح في جدول التنظيف.
نصائح:

- يصبح تنظيف الجهاز أكثر سهولة إذا قمتِ بذلك بعد الاستخدام مباشرة.

- وعند الضرورة، نظفي شبكة المصفاة باستخدام فرشاة ناعمة جداً.

التنظيف السريع لوعاء الخلط

١ إملئي الخلط حتى منتصفه بالماء الفاتر ثم أضيفي بعض قطرات من سائل التنظيف.

٢ أديريِّي مفتاح التحكم على إعداد النبض لبعض مرات.

٣ فكي وعاء الخلط وقومي بتفريغه واشطفيه تحت الصنبور.

استخدام المصفاة

- ١** ضعي المكونات في المصفاة من خلال فتحة الغطاء.
فوجئ بقطيع ثمار الفاكهة إلى قطع أصغر وانقعي الحبوب المجففة، مثل فول الصويا، قبل تحضيرها في المصفاة.
 - ٢** أضفي الماء أو أي سائل آخر.
 - ٣** ركبي وعاء المعايرة في الغطاء وقومي بضبط مفتاح التحكم على أعلى اعداد سرعة ثم شغليه لمدة لا تزيد عن ٤٠ ثانية.
 - ٤** اضبطي مفتاح التحكم على (٠) وفكى وعاء الخلط من وحدة المотор.
 - ٥** قومي بحب المشروب من خلال فتحة الصب الموجودة في وعاء الخلط (شكل ٩).
تأكدى من غلق الغطاء وتركيب كأس المعايرة في الغطاء. يمنع ذلك بقايا الفاكهة والقشور من الوصول إلى مشروبك.
 - ٦** للحصول على نتائج مثالية، ضعي الوعاء مع ما تبقى من مكونات على الجهاز مرة أخرى، بدون فتح أو إزالة الغطاء. ثم دعى الجهاز يعمل لبعض ثوانٍ إضافية.
 - ٧** قومي بحب الجزء المتبقى من المشروب.
 - ٨** بعد الانتهاء من التحضير، اضبطي مفتاح التحكم على الإعداد ، وافصلى التيار الكهربائي عن الجهاز.
- نصائح**
- عند تحضير كميات كبيرة من المكونات، ننصحك بعدم وضع كل المكونات في المصفاة مرة واحدة. ابدئي بتحضير كمية صغيرة ودعى الجهاز يعمل لبعض ثوانٍ.
 - بعدد أوقفي تشغيل الجهاز ثم أضيفي كمية صغيرة. كرري هذا الإجراء حتى الانتهاء من تحضير كل المكونات. احرصي دائمًا على وضع الغطاء على وعاء الخلط أثناء التشغيل.
 - وللحصول على أفضل النتائج عند عمل عصائر الفاكهة والكوكتيلات، أضيفي ٣٠٠ ملي ماء تقريبًا إلى ١٥٠ جرام فاكهة. يمكنك استخدام السواقل الأخرى أيضاً، اعمل الكوكتيلات على سبيل المثال.
 - لتحسين تعبير الطماطم، قطعي الطماطم إلى ٤ قطع وأدخلي القطع إلى الشفرات الدوارة من خلال فتحة الغطاء.
-
- المطحنة (HR2168/HR2167/HR2161) فقط**

يمكنك استخدام المطحنة في طحن وتقطيع مكونات مثل حب الفلفل وبذور السمسم والأرز والقمح وجوز الهند المقشر والبندق (بقدره) وحبوب القهوة وفول الصويا وبالسلة المجففة والجبن وقطع البينز. الخ.

احرصي دائمًا على طحن فصوص الثوم واليابسون النجمي وبذور اليانسون مع المكونات الأخرى. ربما تضر هذه المكونات بأجزاء الجهاز البلاستيكية في حالة طحنها على حدة.

هذه المطحنة غير ملائمة ل搾汁 المكونات الصلبة جداً مثل جوزة الطيب ومكعبات الثلج.
لا تتعدي مستوى الحد الأقصى الموضح على وعاء المطحنة.

تجهيز المطحنة للاستعمال

- ١** ضعي المكونات في وعاء المطحنة (شكل ١٠).
- ملاحظة: انظري جدول الطحن الموضح في نهاية دليل المستخدم للتعرف على المقادير وأوقات التحضير الموصى بها.
- ٢** لفي وحدة شفرات المطحنة في اتجاه عقارب الساعة لتنبيتها في وعاء المطحنة (شكل ١١).
- ٣** بعد تجميع المطحنة، اقلببها رأس على عقب ثم ركبيها على وحدة المotor مع تدويرها في اتجاه عقارب الساعة (شكل ١٢).

استخدام المطحنة

- ١** شغلي الجهاز.
ننصحك باستخدام إعداد النبض أو إعداد السرعة .
لا تدعى المطحنة تعمل لأكثر من ٣٠ ثانية دون توقف.
- ٢** بعد الانتهاء من التحضير، اضبطي مفتاح التحكم على الإعداد ، وافصلى التيار الكهربائي عن الجهاز.
- ٣** لفك المطحنة من وحدة المotor، أديري المطحنة في عكس اتجاه عقارب الساعة.

استخدام الخلاط

لا تضع أصابعك أو أي آداة أخرى (مثل الملعقة) في الخلاط أثناء تشغيله.

لا تختفي مستوى الحد الأقصى الموضح على وعاء الخلاط

١ ضعي قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط.

٢ شغلي الجهاز (شكل ٦).

ملاحظة: انظري جدول الخلط الموضح في نهاية دليل المستخدم للتعرف على المقادير وإعدادات السرعة وأوقات التحضير الموصى بها.

- لتحضير المكونات على سرعة معينة، أديري مفتاح التحكم على إعداد السرعة المطلوبة.

لا تدعى الجهاز يعمل لمدة تزيد عن ٢ دقائق في كل مرة تضغطين فيها على زر التشغيل. اتركي الجهاز ليبرد حتى يصل لنفس درجة حرارة الغرفة قبل مواصلة التحضير.

- ولإعداد المكونات بسرعة شديدة، أديري مفتاح التحكم على وضع النبض (P) عدة مرات.

لا تستخدمي إعداد النبض لأكثر من ثانية معدودة في المرة الواحدة.

- لتسخير الثلج، أضغطي على زر الثلج (ICE).

٣ بعد الانتهاء من التحضير، اضبطي مفتاح التحكم على الإعداد + وافصلي التيار الكهربائي عن الجهاز.

احرصي دائمًا على ضبط مفتاح التحكم على الإعداد + قبل فتح الغطاء.

نصائح

لمنع الانسكاب، لا تضعي أكثر من ١.٥ لتر من السوائل في وعاء الخلاط، خاصة عند تحضير المكونات على مستوى عالي من السرعة. لا

تضعي أكثر من لتر واحد من السوائل في وعاء الخلاط عند تحضير السوائل أو المكونات الساخنة التي تنتج عنها الرغاري.

يمكنك استخدام الفتحة الموجودة في الغطاء لاضافة المكونات أثناء تشغيل الجهاز (شكل ٧).

لا تقومي بخلط المكونات الجافة لمدة تزيد على الدقيقة الواحدة في كل مرة.

قطعي المكونات الصلبة إلى قطع أصغر حجمًا قبل وضعها في وعاء الخلاط. لا تقومي بخلط كبيات كبيرة من المكونات الصلبة في المرة الواحدة. بدلًا من ذلك، قومي بخلط هذه المكونات على دفعات صغيرة.

إذ لم تكوني راضية عن النتائج عند خلط المكونات الصلبة، استخدمي إعداد النبض لبعض مرات للسماح بتشغيل الخلاط على فترات وجيدة. وإذا كنت ترغبين في استخدام ملعقة، أوقفي تشغيل الجهاز وافتتحي الغطاء ثم قلبي المكونات. يمكنك أيضًا أن تقومي بإزالة بعض محتويات الوعاء وتحضير كبيات أصغر.

للحشو مكعبات الثلج، ضعي كمية من الثلج لا تزيد عن خمس مكعبات في المرة الواحدة في الوعاء وأضغطي على الزر (ICE) لبعض مرات.

الطراز HR2170 فقط: الوعاء مصنوع من الزجاج وقابل للكسر. احرصي على لا يفلت منك الوعاء على أرض صلبة. وعلى عدم تعريضه أيضًا الحرارة الشديدة. إذا كان الوعاء شديد البرودة، اشطفيه بالماء الافتار جيداً قبل صب السوائل الساخنة فيه. توقف عن استخدام الوعاء البلاجيكي إذا حدثت به طقطقة.

المصفاة (الطراز HR2168/HR2167 فقط)

يمكنك استخدام المصفاة للحصول على الصلصة المخلوطة بشكل فائق الجودة أو عصائر الفاكهة الطازجة أو الكوكتيلات. تقوم المصفاة باحتجاز كافة الألياف والقشور.

HR2170/HR2160: يمكنك طلب المصفاة (رقم الطراز 2963 HR) من موزع أجهزة Philips.

لا تقومي بملء المصفاة إلى ما بعد جزتها المعدني

لا تستخدمي المصفاة في تحضير المكونات الساخنة

تجهز المصفاة للاستخدام

١ ركبي وعاء الخلاط على وحدة المотор (انظر إلى قسم "تجهز الخلاط للاستخدام" في هذا الفصل).

٢ ركبي المصفاة في وعاء الخلاط (شكل ٨).

تأكد من تركيب المصفاة بشكل صحيح في قاع الوعاء.

استعيني بالفتحات الطولية الموجودة على جسم المصفاة والبروز الموجودة داخل وعاء الخلاط لتركيب المصفاة في الوضع الصحيح.

٣ أغلقي الغطاء.

تنبيه

- لا تستخدمي كميات زائدة عن سعة المصفاة. لا تقرمي بملء المصفاة إلى ما بعد جرئتها المئوية.
- احرصي دائمًا على التأكيد من غلق أو تركيب غطاء وعاء الخليط بالشكل الملائم وإدخال كأس المعايرة في الغطاء قبل بدء تشغيل الجهاز.
- قومي بتطبيع الفاكههة إلى قطع صغيرة قبل وضعها في المصفاة.
- قومي بنقع المكونات المجففة، مثل فول الصويا، قبل وضعها في المصفاة.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

هذا الجهاز من Philips متوافق مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF)، يعد استخدام هذا الجهاز آمنًا إذا استخدم بشكل صحيح حسب التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك حسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

قفل الأمان الداخلي

تضمن لك هذه الميزة عدم تشغيل الجهاز إلا بعد تركيب وعاء الخليط والغطاء الخاص به ووعاء وغطاء المطحنة أو وعاء وغطاء المفرمة (طرز معينة فقط) على وحدة المотор بالشكل الملائم. في حال تركيب وعاء وغطاء الخليط ووعاء وغطاء المطحنة أو المفرمة بالشكل الصحيح، سوف يتم إلغاء قفل الأمان الداخلي.

واقي دارة الموتور

الجهاز مزود بواقي لدارة الموتور يقوم بإيقاف تشغيل المotor في حال انحسار المotor (يمكن أن يحدث ذلك خلال مهام التحضير الثقيلة أو إذا لم يستخدم الجهاز وقتاً للتعليمات المقدمة في المستخدم). وفي حال حدوث ذلك، قومي أولاً بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن التيار الكهربائي واتركيه حتى يبرد على درجة حرارة الغرفة. ثم تتحقق مما إذا كانت كمية المكونات التي تقومين بتحضيرها لا تزيد عن الكمية المذكورة في دليل المستخدم أو إذا كان هناك أي شيء يعيق وحدة الشفارات.

قبل الاستخدام لأول مرة

نظفي الأجزاء التي تلامس الطعام تماماً قبل استخدامك الجهاز لأول مرة (انظر في فصل "التنظيف").

استخدام الجهاز**الخلاط**

- الخلط مصمم للاستخدام في هذه الأغراض:
- خلط السوائل مثل: منتجات الألبان والصلصة وعصير الفواكه والشريبة والمشروبات المخلوطة والمخفوقات.
- خلط المكونات اللينة مثل خليط الكيك أو المايونيز.
- هرس المكونات المطهية كتحضير طعام الأطفال.

تجبير الخليط للاستخدام

- ١ لففي وحدة شفارات الخليط في اتجاه عقارب الساعة لثبيتها في وعاء الخليط (شكل ٢).
- ٢ ركبي وعاء الخليط مع وحدة الشفارات على وحدة المotor وأديريه في اتجاه عقارب الساعة حتى يثبت في مكانه (شكل ٣).
- ٣ ضعي المكونات في وعاء الخليط.
- ٤ اتركي المكونات الساخنة تبرد قبل وضعها في وعاء الخليط (درجة الحرارة القصوى ٨٠ درجة مئوية / ١٧٥ درجة فهرنهايت).
- ٥ الطراز HR2170 فقط: ركبي الغطاء على الوعاء عن طريق ضغطه لأنفه (١) ثم أديريه في اتجاه عقارب الساعة (٢). (شكل ٤).
- ٦ ملاحظة: تأكدي من ثبيت مصفاة الغطاء موضوعة أمام فتحة الصب بالوعاء لتمكنك من صب السوائل.
- ٧ الطرز HR2160/HR2161/HR2167/HR2168 فقط: أغلقي الغطاء.
- ٨ ركبي كأس المعايرة في الغطاء(شكل ٥).
- ٩ ملاحظة: لفك الخليط، اتبعي التعليمات الموضحة أعلاه بالترتيب وفي الاتجاه العكسي.

تبنيه

- احرصي دائمًا على فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل تجميع أو فك أو ضبط أي جزء من أجزائه.
- لا تقدمي أبداً على استخدام أي ملحقات أو أجزاء من ماركات مختلفة غير التي توصي بها شركة Philips، فإذا استخدمت مثل هذه الملحقات أو الأجزاء سيصبح ضمانك لاغيًّا.
- لا تتخطي مؤشر الحد الأقصى الموضح على إناء الخلاط ووعاء المطحنة (طرز معينة فقط) ووعاء المفرمة (طرز معينة فقط).
- لا تتمدد الكببات القصوى والأوقيات المتطلبة للتحضير الموضحة بالجدول ذو الصلة.
- لا يمكن تشغيل الجهاز إلا بعد تركيب إناء الخلاط أو وعاء المطحنة (طرز معينة فقط) أو وعاء المفرمة (طرز معينة فقط) على وحدة المотор بالشكل الصحيح.

الخلاط**تحذير**

- لا تحاولي وضع إصبعك أو أي أداة أخرى في وعاء الخلاط أثناء تشغيل الجهاز.
- تأكدي من إحكام ربط وحدة الشفرات بوعاء الخلاط قبل تجميع وعاء الخلاط أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تلمسي الشفرات الحادة بوحدة شفرات الخلاط عند التعامل معها أو تنظيفها. فهي حادة جداً لدرجة أنها يمكن أن تقطع إصبعك.
- إذا علت وحدة الشفرات، افصلي الجهاز قبل إزالة المحتويات التي تعيق الشفرات.

تبنيه

- لا تملئي وعاء الخلاط بأي مكونات تزيد درجة حرارتها عن ٨٠ درجة مئوية.
- لمنع الانسكاب، لا تضعي أكثر من ١,٥ لتر من السوائل في وعاء الخلاط، خاصة عند تحضير المكونات على مستوى عالي من السرعة. لا تضعي أكثر من لتر واحد من السوائل في وعاء الخلاط عند تحضير السوائل أو المكونات الساخنة التي تنتج عنها الرغاوي.
- في حالة التصادم المكونات على جواوب وعاء الخلاط، أوقفي تشغيل الجهاز وأفصليه عن التيار الكهربائي. بعدئذ استخدمي ملعقة لإزالة المكونات من على جوانب الوعاء.
- احرصي دائمًا على التأكيد من غلق أو تركيب غطاء الخلاط بالشكل الملائم وإدخال كأس المعايرة في الغطاء قبل بدء تشغيل الجهاز.
- HR2170 فقط: الوعاء مصنوع من الزجاج وقابل للكسر. احرصي على لا يفلت منه الوعاء على أرض صلبة. وعلى عدم تعريضه أياً للحرارة الشديدة. إذا كان الوعاء شديد البرودة، اشطفيه بالماء الفاتر جيدًا قبل صب السوائل الساخنة فيه. توقفي عن استخدام الوعاء الزجاجي إذا حدثت به طقطقة.

المطحنة (HR2168/HR2167/HR2161 فقط)**تحذير**

- تأكدي من إحكام ربط وحدة الشفرات بوعاء المطحنة قبل تجميع وعاء المطحنة مع وحدة المotor.
- لا تلمسي الشفرات الحادة بوحدة شفرات المطحنة أثناء التعامل معها أو تنظيفها. فهي حادة جداً لدرجة أنها يمكن أن تقطع إصبعك.
- لا تستخدمي المطحنة في طحن المكونات شديدة الصالبة مثل الجوز ومكبات الثلج.

تبنيه

- لا تستعمل المطحنة لأكثر من ٣٠ ثانية بدون توقف. اتركي المطحنة تبرد بعد كل دورة تحضير حتى تصل إلى نفس مستوى درجة حرارة الغرفة.
- احرصي دائمًا على طحن فصوص الثوم واليابانسون النجمي وينور اليابانسون مع المكونات الأخرى. ربما تضر هذه المكونات بأجزاء الجهاز البلاستيكية في حالة طرحها على حدة.
- يمكن أن يتغير لون وعاء المطحنة إذا استخدمنتها في تحضير مكونات مثل فصوص الثوم واليابانسون والقرفة.
- المطحنة غير صالحة للاستخدام في تقطيع اللحم الناري. استخدمي الخلاط أو المفرمة بدلاً منها.
- لا تستخدمي المطحنة في تحضير السوائل مثل عصير الفاكهة.

المفرمة (الطاز HR2168 فقط)**تحذير**

- تأكدي من أن وحدة الاقتران مربوطة بإحكام بوعاء المفرمة قبل تركيب المفرمة على وحدة المotor.
- لا تلمسي الشفرات الحادة بوحدة شفرات المفرمة عند التعامل معها أو تنظيفها. فهي حادة جداً لدرجة أنها يمكن أن تقطع إصبعك.
- لا تحاولي وضع إصبعك أو أي أداة أخرى في وعاء المفرمة أثناء تشغيل الجهاز.
- إذا علت وحدة الشفرات، افصلي الجهاز قبل إزالة المحتويات التي تعيق الشفرات.

تبنيه

- احرصي دائمًا على التأكيد من تركيب الغطاء بالشكل الملائم على وعاء المفرمة قبل تشغيل الجهاز.
- وفي حال التصادم الطعام على جوانب وعاء المفرمة، أوقفي تشغيل الجهاز وأفصليه عن التيار الكهربائي. بعدئذ استخدمي ملعقة لإزالة المكونات من على جوانب الوعاء.

مبروك على شرائك الجهاز ومرحباً بك في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجلِّي منتجك على www.philips.com/welcome.
الجهاز مزود بنظام داخلي للأمان يمنع التشغيل في حالة عدم تركيب الملحقات بشكل صحيح أو عدم تركيبها على الإطلاق.

الوصف العام (شكل ١)

١	وحدة المotor مزودة بمقفلة للتحكم
٢	إعداد التبييض
٣	إعدادات السرعة
٤	نذر الثلوج
٥	وحدة شفرات الخلط البلاستيك
٦	وعاء الخلط البلاستيك (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)
٧	مؤشر المستوى
٨	غطاء ووعاء الخلط البلاستيك
٩	فتحة الغطاء
١٠	كأس المعايرة
١١	المصفاة (الطرزان HR2168/HR2167 فقط)
١٢	وحدة شفرات الخلط الزجاج
١٣	وعاء الخلط الزجاج (الطرزان HR2170 فقط)
١٤	مؤشر المستوى
١٥	غطاء الوعاء الزجاجي للخلط
١٦	فتحة الغطاء
١٧	كأس المعايرة
١٨	وحدة الاقتران
١٩	وعاء المفرمة (الطرزان HR2168 فقط)
٢٠	وحدة شفرات المفرمة
٢١	غطاء المفرمة
٢٢	وحدة شفرات المطحنة
٢٣	وعاء المطحنة (الطرزان HR2168/HR2167/HR2161 فقط)

هام

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

عام

خطر

- لا تغري وحدة المotor أبداً في الماء أو أي سائل آخر ولا تشطففيها تحت ماء الصنبور الجاري. فقط استخدمي قطعة قماش مبللة لتنظيف وحدة المotor.

تحذير

- تأكدي من موافقة مستوى الفولتية الموضح على الجهاز لفولتية مغذيات الكهرباء المحلية قبل توصيل الجهاز بالكهرباء.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله دوماً عن طريق Philips أو من أي مركز صيانة معتمد منها أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهيل لتفادي وقوع الخطأ.

لا تستخدمي وعاء الخلط أو وعاء المطحنة (طرزان معينة فقط) أو وعاء المفرمة (طرزان معينة فقط) في تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز.

- حذار أن تتركي الجهاز يعمل بدون مراقبة.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنتهي معرفتهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافق لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.

يجب مراعاة الأطفال للتأكد من عدم عيّثهم بالجهاز.

- لا تلمسني شفرات الخلط، خاصة عندما يكون الجهاز موصلاً بالكهرباء، فهي حادة للغاية!

توجه: اگر می خواهید مقدار بیشتری درست کنید، بعد از آماده سازی اولین دسته مواد غذایی اجازه دهید تا درجه حرارت دستگاه به اندازه درجه حرارت اتاق خنک شود.

سوالات معمول

اگر دستگاه کار نمی کند یا به طرز صحیح کار نمی کند، ابتدا لیست زیر را بررسی کرده یا از سایت اینترنتی Philips به نشانی www.philips.com/welcome مراجعه کنید. اگر مشکل مورد نظر در این لیست یا در سایت وجود نداشت، احتمالاً دستگاه دارای عیب است. در این صورت توصیه می کنیم که دستگاه را تزد فروشنده یا یک مرکز خدمات مجاز Philips ببرید.

سوال	جواب
چرا دستگاه کار نمی کند؟	این دستگاه مجهز به یک سیستم ایمنی می باشد. دستگاه در صورتی که پارچ همزن با در آن، کاسه آسیاب (فقط مدل های خاص) یا در آن یا کاسه خرد کن و در آن (فقط مدل های خاص) به طرز صحیح روی واحد موتور سوار نشده باشد یا اصلاً سوار نشده باشد، کار خواهد کرد. بررسی کنید که پارچ در همزن، کاسه آسیاب یا کاسه و در خرد کن را به طرز صحیح سوار کرده باشید (به بخش های مختلف این راهنمای کاربر مراجعه کنید). دکمه کنترل را ابتدا روی + قرار دهید.
آیا می توانم تمامی قطعات جدا شدنی را در ماشین طرف شوی بشویم؟	بلی، بجز واحد موتور و واحد کوپلینگ خرد کن (فقط مدل های خاص)
معنی کلمه "پالس" چیست؟	هنگامی که دکمه کنترل را در حالت پالس قرار می دهید، دستگاه با بالاترین سرعت تا زمانی که دکمه را در آن حالت نگاهدارد، بکار ادامه خواهد دارد. می توانید از حالت پالس در صورتی که بخواهید کنترل بیشتری روی عملیات هم زنی داشته باشید، استفاده کنید.
آیا می توانم مایعات را در خال جوشیدن را در پارچ هم زن بزیرم؟	خیر، بگارید تا مایعات را در درجه حرارت ۸۰ درجه سانتی گراد یا ۱۷۵ درجه فارنهایت خنک شده تا به پارچ صدمه نرسد.
چرا واحد موتور در حين کار بوی ناخوشایندی را تولید می کند؟	برای یک دستگاه جدید، تولید دود و بوی نامطبوع در چند بار اول استفاده عادی می باشد. این مورد بعد از چند بار استفاده از دستگاه متوقف می شود. اگر دستگاه برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرد، دستگاه ممکن است از خود بوی نامطبوع یا دود متصاعد کند. در این حالت، دکمه کنترل را روی + قرار دهید و بگارید تا دستگاه به مدت ۶۰ دقیقه خنک شود.
دستگاه بخار گیر کردن تیغه متوقف شده است. چکار باید انجام دهم؟	دکمه کنترل را روی + قرار دهید و از یک کاردک برای جابجا کردن موادی که واحد تیغه را مسدود کرده اند استفاده کنید. توصیه می کنیم که مواد را در مقادیر کمتر آماده نمایید.
چرا آب میوه یا شیر سویا دارای مقدار زیاد قرایه یا پوست میوه است؟	برای جلوگیری از ورود تفاله و پوست به نوشیدنی، مطمئن شوید که فیلتر (فقط مدل های خاص) بطور صحیح در پارچ قرار داده شده، در دستگاه در محل خود قرار داشته باسته شده است و پیمانه اندازه گیری در داخل دستگاه جا زده شده است.
پارچ هم زن نشت می کند. چکار باید انجام دهم؟	دکمه کنترل را روی + قرار دهید و مواد را بریزید. مطمئن شوید که واشر مربوطه به طرز صحیح در بخش تیغه قرار داده شده است. همچنین مطمئن شوید که واحد تیغه به طرز صحیح سوار شده باشد.

۱ دانه های سوپیا را حداقل ۴ ساعت در آب تازه بخیسانید تا نرم شوند.

۲ دانه های سوپیا خیس خورده را با ۵۰۰ میلی لیتر آب گرم در هم زن به مقدار ۰.۶ ثانیه آماده کنید تا یک محلول نرم بدست آورید.

توجه: اگر می خواهید مقدار بیشتری درست کنید، بعد از آماده سازی اولین دسته مواد غذایی اجازه دهید تا درجه حرارت دستگاه به اندازه درجه حرارت اتفاق خذل شود.

پودر پنج ادویه

مواد

۲ گرم تخم رازیانه	-
۲ گرم گل آنیس	-
۲ گرم پرك هندی	-
۲ گرم میخک	-
۲ گرم شیرین بیان چینی	-

۱ تمام مواد را در پیاله هم زن بریزید.

۲ مواد را به مدت ۳۰ ثانیه آسیاب کنید.

توجه: اگر می خواهید مقدار بیشتری درست کنید، بعد از آماده سازی اولین دسته مواد غذایی اجازه دهید تا درجه حرارت دستگاه به اندازه درجه حرارت اتفاق خذل شود.

کاری تایبلندی

مواد

۲۰ گرم موسیر	-
۱۵ گرم سیر	-
۷ گرم خولنجان شیرین (گالنگال)	-
۹ گرم علف لیمو	-
۲ گرم میخک	-
۱ قاشق غذاخوری گشنیز	-
۱ قاشق غذاخوری دانه زیره سبز	-
۳ فلفل قرمز خشک	-
۵ دانه فلفل	-
۱ قاشق غذاخوری سوس میگر	-
۱ قاشق غذاخوری نمک	-

۱ گالنگال را به اندازه ۱ سانتی متر برش بزنید.

۲ تمام مواد را در پیاله هم زن بریزید.

۳ مواد را به مدت ۳۰ ثانیه آسیاب کنید.

توجه: اگر می خواهید مقدار بیشتری درست کنید، بعد از آماده سازی اولین دسته مواد غذایی اجازه دهید تا درجه حرارت دستگاه به اندازه درجه حرارت اتفاق خذل شود.

سوس فلفل قرمز

مواد

۲۰ گرم فلفل قرمز تازه	-
۲۰ گرم موسیر	-
۲ عدد سیر	-

۱ فلفل قرمز و موسیر را به قطعات بزرگ که در کاسه خرد کن قرار بگیرد، برش بزنید.

۲ فلفل قرمز، موسیر و سیر را در کاسه خرد کن بریزید.

۳ مواد را به مدت ۳۰ ثانیه خرد کنید.

- ۲ تمامی بخش‌های جا شدنی را قبل از تمیز کردن باز کنید.
- ۳ کلیه قطعات دستگاه را به صورتی که در جدول تمیز کردن ذکر شده است تمیز کنید.

نکات:

- تمیز کردن دستگاه و قطعات بلا فاصله بعد از هر استفاده بسیار ساده می‌باشد.
- در صورت لزوم، توری فیلتر را با یک برس نرم تمیز کنید.

تمیز کردن سریع پارچ هم زن

- ۱ هم زن را نیمه از آب گرم پر کرده و چند قطره مایع ظرف شویی در آن بریزید.
- ۲ دکمه کنترل را چند بار روی وضعیت پالس قرار دهید.
- ۳ پارچ هم زن را جدا کرده، آن را تخلیه کرده و زیر شیر آب تمیز کنید.

نگهداری

- ۱ برای ذخیره کردن سیم برق می‌توانید سیم اضافه را در محفظه ذخیره سیم در پایه قرار دهید (شکل ۲۱).
- ۲ دستگاه را در محل مطمئن و خشک نگهداری کنید.

محیط زیست

- دستگاه را در پایان عمر کاری آن مانند سایر زیاله‌های خانگی دور نبریزید، و آن را در محلهای تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می‌کنید (شکل ۲۲).

ضمانات و سرویس

اگر به سرویس یا اطلاعات نیاز داشتید یا اگر با مشکلی روبرو شدید، به سایت اینترنتی Philips به نشانی www.philips.com مراجعه کرده یا با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (این شماره تلفن را در برگه ضمانات جهانی پیدا خواهید کرد). اگر در کشور شما مرکز حمایت از مشتری وجود ندارد به فروشنده لوازم Philips مراجعه کنید.

پستورالعمل پخت مواد

برای دستورالعمل‌های پخت بیشتر از سایت ما به نشانی www.philips.com/kitchen بازدید کنید.

غذای بچه

مواد

- ۲۵۰ گرم گوشت مرغ پخته
- ۲۵۰ گرم سبز زمینی پخته
- ۲۵۰ گرم لوبیای سبز پخته
- ۴۵۰ میلی گرم شیر

- ۱ پارچ هم زن را روی واحد موتور قرار دهید (به بخش "استفاده از دستگاه" مراجعه کنید).

- ۲ مواد را به قطعات 2×2 سانتی متر برش دهید.

- ۳ تمامی مواد را در پارچ هم زن بریزید.

- ۴ مواد را به مدت ۲۵ ثانیه هم بزنید (یا برای حالت نرم تر مدت را طولانی تر کنید).

توجه: اگر می‌خواهید مقار بیشتری درست کنید، بعد از آماده سازی اولین دسته مواد غذایی اجازه دهید تا درجه حرارت دستگاه به اندازه درجه حرارت اتان خنک شود.

شیر سویا**مواد**

- ۱۸۰ گرم دانه سویا (خیس خورده)
- ۵۰۰ میلی لیتر آب گرم

۱۱) تیغه آسیاب را در خلاف چرخش عقربه های ساعت روی پارچ هم زن ببیجید (شکل ۱۱).

۱۲) آسیاب آماده شده را وارونه کرده و آن را در جهت موافق حرکت عقربه های ساعت روی واحد موتور ببیجانید (شکل ۱۲).

استفاده از آسیاب

۱) دستگاه را روشن کنید.

توصیه می شود تا از حالت پالس یا سرعت شماره ۵ استفاده کنید.

هرگز اجازه نهیدن تا آسیاب برای بیش از ۳۰ ثانیه بدون وقفه کار کند.

۲) هنگام اتمام عمل مخلوط کردن، کشویی کنترل را روی + قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پریز ببرون بکشید.

۳) برای برداشتن آسیاب از روی واحد موتور، آن را در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

خرد کن (فقط مدل HR2168)

می توانید از خرد کن برای خرد کردن موادی مانند پیاز، گوشت، سبزیجات خوشبو، انواع سبزی، میوه، شکلات، پنیر سفت، غذای بچه و انواع مغز و آجیل استفاده کنید.

مدلهای HR2170/HR2161/HR2160: می توانید خرد کن (شماره قطعه Philips) را در فروشگاه لوازم سفارش دهید.

از خرد کن برای مخلوط کردن مایعات استفاده نکنید. فقط از همنز برای این منظور استفاده کنید.

۱) واحد کوپلینگ خرد کن را در انتهای کاسه خرد کن قرار دهید (۱). واحد کوپلینگ را برای نصب در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید (۲) (شکل ۱۳).

۲) کاسه خرد کن (۱) را روی واحد موتور قرار دهید و برای ثابت شدن آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید (۲). (شکل ۱۴).

۳) واحد تیغه خرد کن را در کاسه خرد کن قرار دهید (شکل ۱۵).

۴) مواد را در کاسه خرد کن ببریزید (شکل ۱۶).

توجه: در مورد مقابله، تنظیمات سرعت و زمانهای آماده سازی به جدول خردکردن در انتهای دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

از حداکثر مقدار تعیین شده در جدول فراتر نروید.

نکته: قطعات بزرگ را قبل از استفاده به قطعاتی به اندازه ۱-۲ سانتی متر برش بزنید.

۵) در روزی کاسه خرد کن قرار داده (۱) و برای بستن آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید (۲) (شکل ۱۷).

توجه: قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که در به طرز صحیح بسته شده است.

۶) دستگاه را روشن کنید.

توجه: اگر دستگاه بخطاطر اینکه مواد خذالی بطور یکسان پختش نشده است لرزید، دست خود را روی در قرار دهید.

توجه: خود کن کار خود را در عرض چند ثانیه انجام می دهد. هرگز بیش از چند ثانیه از خرد کن استفاده نکنید.

۷) هنگام اتمام عمل مخلوط کردن، کشویی کنترل را روی + قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پریز ببرون بکشید.

۸) کاسه خرد کن را در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید (۱) و آن را از واحد موتور جدا کنید (۲). (شکل ۱۸).

۹) واحد کوپلینگ را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید (۱) و آن را از انتهای کاسه خرد کن جدا کنید (۲) (شکل ۱۹).

۱۰) در و قطعه تیغه را از کاسه خرد کن باز کنید.

亨گام کار با تیغه نقت بعمل آورید. لبه های برش تیغه بسیار تیز می باشند.

۱۱) کاسه خرد کن را خالی کنید.

قبل از تخلیه کاسه خرد کن، همیشه واحد تیغه را از کاسه خرد کن و خرد کن را از واحد موتور جدا کنید.

۲۰) تمیز کردن (شکل ۲۰)

هرگز از صفحات ساینده، مواد پاک کننده ساینده یا مایعات قوی مانند بنزین یا استن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

۱) دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج کنید.

هرگز فیلتر را بیشتر از بخش فلزی آن پر نکنید.

از فیلتر برای آماده سازی مواد غذایی داغ استفاده نکنید.

آماده سازی فیلتر برای استفاده

۱ پارچ همزن را روی واحد موتور سوار کنید (به بخش "آماده کردن همزن برای استفاده" در این فصل مراجعه کنید).

۲ فیلتر را در پارچ هم زن قرار دهید (شکل ۸).

مطمئن شوید که فیلتر بطرز صحیح در انتهای پارچ قرار داده شده است.
شیارهای فیلتر و دندنهای داخل پارچ هم زن به شما کمک می کند تا فیلتر را در محل صحیح قرار دهید.

۳ در دستگاه را بیندید.

استفاده از فیلتر

۱ مواد را از طریق شکاف پداخیر فیلتر ببریزید.

میوه ها را به قطعات کوچکتر برش زده و مواد خشک، مانند دانه سویا، را قبل از قرار دادن آنان در فیلتر بخیسانید.

۲ به مواد آب یا مایع دیگری را اضافه نمایید.

۳ پیمانه اندازه گیری را درون در قرار داده، دکمه کنترل را روی بالاترین سرعت قرار داده و بگذارید تا دستگاه برای حداکثر ۴۰ ثانیه کار کند.

۴ دکمه کنترل را روی ۰ قرار دهید و پارچ هم زن را از واحد موتور جدا کنید.

۵ نوشیدنی را از طریق لوله پارچ هم زن ببریزید (شکل ۹).

مطمئن شوید که در پارچ بسته است و پیمانه اندازه گیری درون در قرار گرفته است. این کار از ورود تفاله ها و پوسیت میوه ها در نوشیدنی شما جلوگیری بعمل می آورد.

۶ برای کسب نتیجه بهتر، پارچ را با باقیمانده مواد روی دستگاه قرار دهید، بدون اینکه در را بازنگید/بردارید. سپس، بگذارید تا دستگاه چند ثانیه دیگر هم کار کند.

۷ باقیمانده نوشیدنی را ببریزید.

۸ هنگام اتمام عمل مخلوط کردن، کشویی کنترل را روی ۰ قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پریز بپرون بکشید.

نکات

- هنگامی که شما مقدار زیادی از مواد را آماده می کنید، توصیه می کنیم که تمامی مواد را به یک باره درون فیلتر قرار ندهید. آماده ساختن را با مقدار کم شروع کنید و بگذارید تا دستگاه برای چند ثانیه کار کند.

- سپس دستگاه را هماشون کرده و مقدار کم دیگری را اضافه کنید. این روش را تکرار کرده تا تمامی مواد آماده شوند. همیشه در بروی پارچ هم زن را در حین آماده سازی مواد بسته نگاه دارید.

- برای کسب بهترین نتیجه هنگام درست کردن آب میوه و کوکتل، حدود ۳۰۰ میلی لیتر آب را به ۱۵۰ گرم میوه اضافه کنید. همچنین می توانید از سایر مایعات هم استفاده کنید.

- برای آماده کردن آب گوجه فرنگی، گوجه ها را چهار تکه کرده و قطعات خرد شده را از طریق شکاف در روی تیغه های در حال چرخش بریزید.

آسیاب (فقط مدل HR2168/HR2167/HR2161)

آسیاب را می توان برای پودر کردن و خرد کردن موادی مانند دانه های فلفل، دانه های کنجد، برنج، گندم، نارگیل، آجیل (دارای پوسیت)، دانه قهقهه، دانه سویا، نخود خشک، پنیر، خرد نان و غیره استفاده نمود.

همیشه میخک، دانه انسیبون، و انسیبون را همراه با مواد دیگر آسیاب کنید. در صورتی که این مواد بطور جداگانه آسیاب شوند، ممکن است به مواد پلاستیکی دستگاه آسیاب برسانند.

این آسیاب برای خرد کردن مواد سخت مانند جوز و بخ مناسب نمی باشد.

از درجه حداکثر تعیین شده روی کاسه آسیاب فراتر نرود.

آماده سازی آسیاب برای استفاده

۱ مواد را در ظرف آسیاب قرار دهید (شکل ۱۰).

توجه: در مورد مقابله، تنظیمات سرعت و زمانهای آماده سازی به جدول آسیاب در انتهای دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

قبل از ریختن مواد در پارچ همزن بگذارید تا مواد داغ خنک شوند. (حداکثر درجه حرارت ۸۰ درجه سانتی گراد / ۱۷۵ درجه فارنهایت)

۴ فقط مدل HR2170: درب روی پارچ را با فشار دادن به طرف پایین (۱) و چرخاندن آن در جهت حرکت عقربه های ساعت (۲) محکم کنید. (شکل ۴)

توجه: مطمئن شوید که المک داخل در پارچ در جلوی لوله پارچ قرار گرفته است تا مایعات بتوانند از آن خارج گردند.

۵ فقط مدل های HR2168/HR2167/HR2161/HR2160: در را بینید.

۶ پیمانه اندازه گیری را درون در جا بزنید (شکل ۵).

توجه: برای جدا کردن قطعات هم زن دستورالعملها را به ترتیب عکس دنبال کنید.

استفاده کردن از هم زن

هرگز انگشتان خود یا شیشه (مانند کاربک) را در زمانی که دستگاه کار می کند در پارچ هم زن وارد نکنید.

از درجه حداکثر تعیین شده در پارچ همزن فراتر نروید.

۱ دو شاخه برق را به پریز وصل کنید.

۲ دستگاه را روشن کنید. (شکل ۶)

توجه: جهت استفاده از دستگاه در مورد مقادیر، تنظیمات سرعت و زمانهای آماده سازی به جدول هم زن در انتهای دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

- برای آماده کردن مواد با استفاده از یک سرعت خاص، دکمه کنترل را روی سرعت دلخواه قرار دهید.

اجازه ندهید که دستگاه برای بیشتر از ۲ دقیقه در هر نوبت کار کند. قبل از آماده کار، بگذارید که دستگاه تا حد درجه حرارت اتاق خنک شود.

- برای آماده کردن مواد در فواصل کوتاه، دکمه کنترل را یک یا چند بار روی حالت پالس (P) قرار دهید.

در هر بار استفاده، از حالت پالس بیشتر از چند ثانیه استفاده نکنید.

- برای خرد کردن یخ، دکمه ICE را فشار دهید.

۳ هنگام اتمام عمل مخلوط کردن، کشویی کنترل را روی ۰ قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پریز بپرسون بکشید.

همیشه دکمه کنترل را قبل از باز کردن در روی ۰ قرار دهید.

نکات

- برای جلوگیری از پاشیده شدن مواد، بیشتر از ۱/۵ لیتر مایع در پارچ نزدیک، خصوصاً هنگامی که شما مواد را در سرعت بالا آماده می کنید. هنگامی که شما مواد داغ یا موادی که ممکن است کف کنند را آماده می کنید، بیشتر از ۱ لیتر از این مواد را در پارچ هم زن نزدیک.

- می توانید از شکاف در حالیکه دستگاه در حال کار است، برای افزودن مواد استفاده کنید (شکل ۷). مواد غذایی خشک را بیشتر از ۱ دققه هم نزنید.

- قبل از قرار دادن مواد جامد در پارچ هم زن، آنان را به قطعات کوچکتر برش بزنید. در يك نوبت مقدار زیاد از مواد جامد را فرآوری نکنید. بجای این کار، این گونه مواد را در مستهای کوچک آماده نمایید.

- اگر از نتیجه به دست آمده در زمان هم زدن مواد راضی نمی باشد، دکمه کنترل را چند بار در وضعیت پالس قرار داده و اجازه دهید تا دستگاه برای مدت کوتاهی کار کند. اگر بخواهید از کاردک استفاده کنید، دستگاه را خاموش کرده، در را ببردارید و مواد را هم بزنید. همچنین می توانید برخی از مواد درون پارچ را خارج کنید و کار را با مقابله کنتر انجام دهید.

- برای خرد کردن یخ، در هر نوبت حداقل ۵ تکه را در پارچ قرار داده و دکمه ICE را چند بار فشار دهید.

۴ فقط مدل HR2170: پارچ از شیشه ساخته شده است و ببنابراین امکان شکستن آن وجود ندارد. پارچ را روی زمین نیلاندزید همچنین از شوکهای گرمایی شدید هم اجتناب نکنید. اگر پارچ سرد است، قبل از قرار دادن مواد داغ درون پارچ، آن را کاملاً با آب و لرم آب بکشید. اگر پارچ شیشه ای ترک خورد، از آن دیگر استفاده نکنید.

فیلتر (فقط مدل HR2168/HR2167)

می توانید برای ساختن انواع سوس، آب میوه یا کوکتل های کاملاً صاف شده از فیلتر استفاده کنید. تمامی تفاله ها و پوست میوه در فیلتر باقی خواهد ماند.

مدلهای HR2170/HR2160: می توانید فیلتر (شماره قطعه 2963) را در فروشگاه لوازم Philips سفارش دهید.

از دست زدن به لبه های برنده تیغه خردکن در هنگام تمیز کردن و کار کردن با آن اجتناب کنید. این لبه ها بسیار تیز بوده و می تواند براحتی انگشتان شما را ببرند.

هرگز انگشتان خود یا شیئی را در زمانی که دستگاه کار می کند در کاسه خردکن وارد نکنید.
اگر تیغه ها گیر کرده اند، دو شاخه دستگاه را قبل از خارج کردن موادی که باعث گیر کردن تیغه ها شده اند، از پریز بیرون بکشید.

احتیاط

قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که در بدرستی روی کاسه خرد کن قرار داده شده است.
اگر مواد غذایی به دیواره کاسه خرد کن چسبیده، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. سپس از یک کاردک برای جدا کردن مواد غذایی از دیواره دستگاه استفاده کنید.

فیلتر (فقط مدل HR2167/HR2168)

احتیاط

هرگز از فیلتر برای آماده سازی موادی که حرارت آنان بالاتر از ۸۰ درجه سانتی گراد است، استفاده نکنید.
هرگز در فیلتر بیشتر از حد معمول بار نگذارید. فیلتر را بیشتر از بخش فلزی آن پر نکنید.
قبل از روشن کردن دستگاه، اطمینان حاصل کنید که در پارچ هم زن بطرز صحیح بسته شده / سوار شده است و بیمانه اندازه گیری بطرز صحیح روی در قرار داده شده است.
قبل از قرار دادن آنها در فیلتر، میوه ها را به قطعات کوچکتر برش دهید.
مواد خشک مانند سویا را قبل از قرار دادن در فیلتر بخیسانید.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips از کلیه استانداردهای میدان الکترو مغناطیسی (EMF) بپروری می کند. در صورت استفاده صحیح و بهره گیری از دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنمای، طبق شواهد علمی موجود کنونی، استفاده اینم از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

قفل ایمنی داخلی

این ویزگی به شما اطمینان می دهد که پارچ همزن و در، کاسه آسیاب یا کاسه و در خرد کن (فقط مدل های خاص) به طرز صحیح سوار شده اند.

اگر پارچ همزن یا کاسه آسیاب یا کاسه خردکن بطرز صحیح جا زده شده باشد، قفل ایمنی داخلی باز خواهد شد.

حفاظت کننده مدار موتور

دستگاه به یک حفاظت کننده مدار موتور مجهز می باشد که در صورت گیر کردن موتور، دستگاه را خاموش می کند (ممکن است در حین انجام کارهای سنتگین یا در صورتی که از دستگاه مطابق دستورالعملهای داده شده در راهنمای کاربر استفاده نشود رخ دهد). اگر این مورد اتفاق افتاد، ابتدا دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه آن را از پریز بیرون بکشید و بگارید تا به اندازه دمای اتاق خنک شود. سپس بررسی کنید که مقدار موادی که در دستگاه ریخته اید از مقدار ذکر شده در دفترچه راهنمای بیشتر نباشد یا چیزی در دستگاه گیر نکرده باشد.

قبل از اولین استفاده

قطعاتی که در تماس با مواد غذایی قرار می گیرند را قبل از اولین استفاده بطور کامل تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن" مراجعه کنید).

استفاده از دستگاه

هم زن

این هم زن برای موادی زیر طراحی شده است:

هم زدن مایعات، مانند مخصوصات لینی، انواع سوس، آب میوه، سوب، نوشیدنیهای مخلوط و انواع شیک.
مخلوط کردن انواع مواد غذایی نرم مانند خمیر پن کیک یا مایونز
مواد پخته شده پوره مانند آماده کردن غذای کوکد.

آماده سازی هم زن برای استفاده

۱ تیغه هم زن را در جهت موافق چرخش عقربه های ساعت روی پارچ هم زن بپیچید (شکل ۲).

۲ پارچ هم زن که واحد تیغه روی آن نصب شده است را روی واحد موتور قرار دهید و آن را موافق حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود (شکل ۳).

۳ تمامی مواد را در پارچ هم زن بپریزید.

از دست زدن به تیغه ها خودداری کنید، خصوصاً هنگامی که دستگاه به برق وصل شده است. تیغه ها بسیار تیز می باشند!

احتیاط

همیشه دوشاخه دستگاه را قبل از سوار کردن، جدا سازی، تمیز کردن با تنظیم کردن هر کدام از لوازم از پریز خارج کنید.

هرگز از لوازم و قطعات سایر تولید کنندگان که بطور خاص از طرف Philips توصیه نشده اند استفاده نکنید. چنانچه از این لوازم یا قطعات استفاده کنید، ضمانت شما باطل می شود.

از میزان حداکثر که روی پارچ همزن، کاسه آسیاب (فقط مدلهای خاص) و کاسه خردکن تعیین شده است (فقط مدلهای خاص) فراتر نروید.

از حداکثر مقادیر و زمانهای آماده سازی تعیین شده در جدول مربوطه فراتر نروید.

دستگاه را فقط در صورتی که پارچ هم زن، کاسه آسیاب (فقط مدلهای خاص) یا کاسه خردکن (فقط مدلهای خاص) بطور صحیح روی واحد موتور نصب شده باشند، می توان روشن کرد.

هم زن

هشدار

هرگز انگشتان خود یا شیئی را در زمانی که دستگاه کار می کند در پارچ هم زن وارد نکنید.

قبل از نصب پارچ روی واحد موتور، مطمئن شوید که تیغه به پارچ هم زن محکم بسته شده است.

از دست زدن به لبه های بر زنده تیغه واحد همزن در هنگام تمیز کردن و کار کردن با دستگاه اجتناب کنید. این لبه ها بسیار تیز بوده و می تواند براحتی انگشتان شما را ببرند.

اگر تیغه ها گیر کرده اند، دو شاخه دستگاه را قبل از خارج کردن موادی که باعث گیر کردن تیغه ها شده اند، از پریز بپرون بکشید.

احتیاط

هرگز پارچ هم زن را از موادی که داغتر از ۴۰ درجه سانتی گراد باشد پر نکنید.

برای جلوگیری از پاشیده شدن مواد، بیشتر از ۱/۵ لیتر مایع در پارچ نریزید، خصوصاً هنگامی که شما مواد را در سرعت بالا آماده می کنید. هنگامی که شما مواد داغ یا موادی که ممکن است کف کنند را آماده می کنید، بیشتر از ۱ لیتر از این مواد را در پارچ هم زن نریزید.

اگر مواد غذایی به دیواره پارچ هم زن چسبید، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بپرون بکشید. سپس از یک کاربک برای جدا کردن مواد غذایی از دیواره دستگاه استفاده کنید.

قبل از روشن کردن دستگاه، اطمینان حاصل کنید که در هم زن بطرز صحیح بسته شده /سوار شده است و پیمانه اندازه گیری بطرز صحیح روی در قرار داده شده است.

فقط مدل HR2168/HR2167/HR2161 پارچ از شیشه ساخته شده است و بنابراین امکان شکستن آن وجود دارد. پارچ را روی زمین نیاندازید. همچنین از شوکوهای گرمایی شدید هم اجتناب کنید. اگر پارچ سرد است، قبل از قرار دادن مواد داغ در درون پارچ، آن را کاملاً با آب و لرم آب بکشید. اگر پارچ شیشه ای ترک خورد، از آن دیگر استفاده نکنید.

آسیاب (فقط مدل HR2168/HR2167/HR2161)

هشدار

قبل از نصب کاسه آسیاب روی واحد موتور، مطمئن شوید که تیغه به کاسه آسیاب محکم بسته شده است.

از دست زدن به لبه های بر زنده تیغه در هنگام تمیز کردن و کار کردن با دستگاه اجتناب کنید. این لبه ها بسیار تیز بوده و می تواند براحتی انگشتان شما را ببرند.

هرگز از آسیاب برای خرد کردن مواد بسیار سخت مانند جوز هندی و قطعات بخ استفاده نکنید.

احتیاط

هرگز از آسیاب بمدت بیش از ۳۰ ثانیه بدون وقفه استفاده نکنید. بین نوبتها کاری اجازه دهد تا دستگاه در حد درجه حرارت اتاق خنک شود.

همیشه میخک، دانه انسیون، و انسیون را همراه با مواد دیگر آسیاب کنید. در صورتی که این مواد بطور جداگانه آسیاب شوند، ممکن است به مواد پلاستیکی دستگاه آسیب برسانند.

ظرف آسیاب هنگامی که می خواهید موادی مانند میخک، انسیون و دارچین را خرد کنید ممکن است تغییر رنگ دهد.

آسیاب برای خرد کردن گوشت خام مناسب نمی باشد. بجای آن از همزن یا خردکن استفاده کنید.

از آسیاب برای آماده ساختن مایعاتی مانند آب میوه استفاده نکنید.

خرد کن (فقط مدل HR2168)

هشدار

قبل از نصب خردکن روی واحد موتور، مطمئن شوید که قطعه کوبیلینگ به پارچ هم زن محکم بسته شده است.

بخاطر خرید این دستگاه به شما تبریک می‌گوییم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارایه شده، محصول خود را در www.philips.com/welcome ثبت کنید. این دستگاه مجهز به سیستم ایمنی داخلی است که از روشن شدن دستگاه در برابر نصب نادرست لوازم جانبی یا عدم نصب لوازم جانبی جلوگیری بعمل می‌آورد.

شرح کلی (شکل ۱)

۱	واحد موتور با دکمه کنترل
۲	حالت پالس
۳	حالات سرعت
۴	دکمه بیخ
۵	واحد تیغه همزن پلاستیکی
۶	پارچ پلاستیکی همزن (مدلهای HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)
۷	علامت سطح
۸	در پارچ پلاستیکی هم زن
۹	روزنگ در
۱۰	پیمانه اندازه گیری
۱۱	فیلتر (فقط مدل HR2167) (HR2168/HR2167)
۱۲	واحد تیغه همزن شیشه ای
۱۳	پارچ شیشه ای همزن (فقط مدل HR2170) (HR2170)
۱۴	علامت سطح
۱۵	در پارچ شیشه ای هم زن
۱۶	روزنگ در
۱۷	پیمانه اندازه گیری
۱۸	واحد کوپلینگ
۱۹	کاسه خردکن (فقط مدل HR2168) (HR2168)
۲۰	واحد تیغه خرد کن
۲۱	در خرد کن
۲۲	واحد تیغه آسیاب
۲۳	کاسه آسیاب (فقط مدل HR2168/HR2167/HR2161) (HR2168/HR2167/HR2161)

مهم

این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید.

عمومی

خطر

- هرگز محفظه دستگاه را در آب یا هر گونه مایع دیگر فرو نبرید، یا آن را زیر شیر آب نشوئید. فقط از یک تکه پارچه ندار برای تمیز کردن واحد موتور استفاده کنید.

شدید

- قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل همانگی داشته باشد.
- اگر سیم برق صدمه دیده است، باید توسط شرکت Philips یا مرکز خدمات مور تایید شرکت Philips یا افرادی تایید شده دیگری برای اجتناب از ایجاد خطر، تعویض شود.
- چنانچه سیم برق، دو شاخه یا سایر قطعات دستگاه صدمه دیده باشد از دستگاه استفاده نکنید.
- هرگز از پارچ هم زن، کاسه آسیاب (فقط مدلهاي خاص) یا کاسه خرد کن (فقط مدلهاي خاص) برای روشن و خاموش کردن دستگاه استفاده نکنید.

هنجار

- هرگز اجازه ندهید که دستگاه بدون مراقب کار کند.
- این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیف جسمانی (شامل کودکان)، حساسیت یا عقب ماندگی ذهنی و یا عدم داشتن تحریره و درک صحیح از آن مستعد نمی باشد، مگر اینکه اینکوهه اشخاص تحت آموزش و یا سرپرستی توسط افرادی که مسئولیت حفاظت از آنها را دارند در رابطه با این دستگاه قرار داشته باشند.
- کودکان باید در رابطه با این دستگاه تحت مراقبت باشند و مطمئن شوید که با آن بازی نکنند. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.



		MAX	<500g	90 sec.
		MAX	<750ml	60 - 90 sec.
		MAX	<1000ml	60 - 120 sec.
		MAX	<1000ml	30 - 60 sec.
		MAX	<750ml	60 - 90 sec.
			5x	5 - 6 pulses
		P	50 - 150g	5 - 8 pulses
		P	50 - 200g	5 - 10 pulses
		P	10 - 20g	7 - 10 pulses
		P	75 - 150g	20 - 30 sec.
		P	max. 150g	30 sec.
		P	max. 150g	35 sec.
		P	100 - 200g	30 sec.
		P	25 - 150g	30 sec.
		P	5 - 25g	30 sec.
		P	25 - 75g	30 sec.
		P	25 - 75g	30 sec.
		P	25 - 50g	30 sec.
		P	25 - 75g	10 sec.
		P	20 - 40g	10 sec.



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.002.7445.2